

کل محدثہ بُدَعَةٌ، وَكُلُّ بُدَعَةٍ ضَلَالٌ وَكُلُّ ضَلَالٍ فِي النَّارِ (الْحَدِيدَ)

انگوٹھے چونے



بعض فقہاء حنفیہ کی ایک عبارت کی تحقیق

حاشیۃ ابن عابدین، حاشیۃ الطحاوی اور حاشیۃ فیض جلیلین میں
تفہیم الابہاریں کے استحباب کے قول کی توجیہ تحقیق اور ان کے متدلات
کی حیثیت پر ایک تحقیقی بحث اور اکابرین ائمۃ کے فتاویٰ جات

پسندیدہ مودود

شیخ الحشیۃ حضرت مولانا سعید الدین خاں حب

صَدَّقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مَا يَصُدِّقُ

تحقیق و جمیع

مضتی محمد راشد مسکوی

فقیہ شعبہ نصرتیہ ایڈیشن جامعہ فاروقیہ کراچی

مکتبہ عمر فاروق

«کلٰ محدثہ بدعة، وکلٰ بدعة ضلالہ وکلٰ ضلالہ فی النار». (الحدیث)

انگوٹھے چونے سے متعلق

بعض فقہاء احناف کی ایک عبارت کی تحقیق

حاہیہ ابن عابدین، حاہیہ الطحاوی اور حاہیہ تفسیر جلالین
میں تفصیل الابہامین کے احتجاب کے قول کی توضیح و تحقیق اور ان کے
مسئلات کی حیثیت پر ایک تحقیقی بحث اور اکابرین امت کے فتاویٰ جات

یمندر فرمودہ

حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب زید بھڑام
صدر و فاقہ المدارس العربیہ و مہتمم جامعہ فاروقیہ کراچی

تحقیق و جمع

مفتی محمد اشادہ سکوی عفان اللہ عنہ
رفیق شعبہ تصنیف و تالیف و استاذ جامعہ فاروقیہ کراچی

جملہ حقوق بحق ناشر مکتبہ عنقر فاروق محفوظ میں

۳

ناشر.....	اگوٹے چونے سے متعلق بعض فقہاء حنفی کی ایک جماعت کی تحقیق
متین دعوی.....	متین محمد راشد سکری
اشاعت اول.....	فروری ۲۰۱۳ء
تعداد.....	۱۰۰
طاح.....	ال قادر پرنگ پر لیس کراچی
ناشر.....	مکتبہ عمر فاروق: ۳۹۱، شاہ فیصل کالونی، کراچی

021-34594144, Cell: 0334-3432345

ای میل.....
mfarooq12317@yahoo.com

تاوید مکمل ذمہ دار

کتاب پڑھنے کی تیاری میں صحیح کتابت کا خاص انتظام کیا گیا ہے، تاہم اگر پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو اتنا سا ہے کہ ضرور مطلع فرمائیں، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ان اغلاط کا تدارک کیا جاسکے۔ جزاک اللہ خیراً

ملنے کے تجھے

دارالاشرافت۔ اردو بازار کراچی

اسلامی کتب خانہ۔ علامہ بندری ٹاؤن کراچی

مکتبہ رحمانیہ۔ اردو بازار لاہور

وحیدی کتب خانہ۔ ملکی قصہ خوانی بازار، پشاور

مکتبہ العارفی، جامعہ امدادیہ، ستیانہ روڈ، فیصل آباد

انساب

ان سعادت مندا فراؤ کے نام

جو

جہنم کی طرف لے جانے والی بد عات
کو ترک کر کے سنو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر چلنے کا عزمِ مصمم رکھتے ہیں

فہرست

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
⊗	تقریظ.....(شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خاں صاحب زید مجده)	7
⊗	تقریظ.....(حضرت مولانا مفتی عبدالباری صاحب مدظلہ)	8
⊗	حرف اول.....	19
باب اول: انگوٹھے چونے سے متعلق بعض فقهاء کرام کی ایک عبارت کی تحقیق		22
⊗	پس منظر.....	23
⊗	حافظہ ابن عابدین میں ہے.....	25
⊗	حافظہ الطحاوی علی مراتق الفلاح میں ہے.....	27
⊗	تفسیر جلالین کے حاشیہ (منقول از روح البیان) میں ہے.....	29
⊗	قابل تحقیق امور.....	33
⊗	پہلی بحث.....	33
⊗	دوسری بحث.....	34
⊗	ایک مکنہ اعتراض کا جواب.....	36
⊗	ملا علی قاریؒ کی ایک بات کی تحقیق.....	37
⊗	علم حدیث میں مذکورہ روایت کی حیثیت.....	38

نمبر شار	عنوان	صفہ نمبر
	مجمم المصطلحات الحدیثیہ کا حوالہ.....	40
	دوسری روایت کی تحقیق.....	43
	روایات کے مأخذ کا بیان.....	44
	”کنز العباد“ کے بارے میں علامہ لکھنؤی فرماتے ہیں.....	44
	”فتاویٰ صوفیہ“ کے بارے میں ائمہ کے اقوال.....	45
	”تمہانی“ کے بارے میں علامہ لکھنؤی فرماتے ہیں.....	46
	”تمہانی“ کے بارے میں علامہ شامی فرماتے ہیں.....	47
	”فردوس اللدیمی“ نے بارے میں ائمہ کے اقوال.....	48
	ذکورہ کتب سے مسئلہ لینے کا حکم.....	52
	صاحب روح البیان اور علامہ طحطاوی کے اپنے قول کا جائزہ.....	53
	فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنے کی شرائط.....	54
	”وقت القلوب“ کی عبارت سے متعلق وضاحت.....	56
	علامہ ابن عابدین اور علامہ طحطاوی رحمہما اللہ کا دفاع.....	58
	مستحبات کو ان کے درجے سے بڑھادینے کا حکم.....	59
	علامہ عبدالحی لکھنؤی کا فتویٰ.....	61
	بدعت کی قلمت	63
	باب دوم: اکابر علماء دیوبند کے فتاویٰ جات	70

نمبر شار	عنوان	صفحہ نمبر
●	فتاویٰ دارالعلوم دیوبند	71
●	اذان میں بوقت شہادت میں اگوٹھا چومنا.....	71
●	کفایت المفتی.....	72
●	حضرور اکرم ﷺ کا نام سن کر اگوٹھے چومنا.....	72
●	امداد الاحکام.....	74
●	آنحضرت ﷺ کا نام سن کر اگوٹھے چومنا بدعت ہے	74
●	فتاویٰ محمودیہ.....	76
●	اذان میں رسول اللہ ﷺ کا اسم مبارک سن کر اگوٹھے چومنا.....	76
●	اذان میں اگوٹھے چومنا.....	77
●	فتاویٰ مفتی محمود.....	79
●	فتاویٰ رحیمیہ.....	80
●	آنحضرت ﷺ کا نام سن کر اگوٹھے چومنا کیسا ہے؟.	80
●	آنحضرت ﷺ کا اسم کرامی سنتے وقت اگوٹھا چومنا.....	89
●	مولوی احمد رضا خاں کا فتویٰ.....	94
●	حسن الفتاوی.....	97
●	اذان میں اگوٹھے چومنا کر انکھوں پر لگانا.....	97

نمبر شر	عنوان	صفہ نمبر
●	اپ کے سائل اور ان کا حل.....	99
●	اکامت کے دوران پیشے رہنا اور اگوٹھے چونا.....	99
●	خیر الفتاوی.....	99
●	اگوٹھے چونے کی روایت صحیح نہیں.....	99
●	فتاویٰ حنفیہ.....	103
●	اذان میں اگوٹھے چونے کا مسئلہ.....	103
●	فتاویٰ دارالعلوم زکریا.....	104
●	بوقبض اذان اگوٹھے چونا.....	104
●	صرف علاج کے لیے الگیوں کو آنکھوں پر رکھنا.....	106
●	فتاویٰ فریدیہ.....	108
●	حننوں کا نام سن کر اگوٹھا چونا.....	108
●	اگوٹھے چونا روایات صحیح سے ثابت نہیں.....	108
●	محمد الفتاوی.....	110
●	غضویں اور حننوں کے نام پر اگوٹھے چونا.....	110
●	فتاویٰ عبدالرحمن.....	112
●	اذان کے درمیان اگوٹھے چونے کا حکم.....	112
●	مصادر و مراجع.....	115

شیخ الحدیث حضرت اقدس مولا نا سلیم اللہ خان صاحب زید مجدد ہم العالیہ
صدر و فاق المدارس العربیہ و مہتمم و شیخ الحدیث جامعہ فاروقیہ کراچی

تقریط

بسم اللہ الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد!
مولانا مفتی محمد راشدزادہ اللہ علیہ وفضلہ جامعہ فاروقیہ کراچی کے استاد اور شعبۃ
تصنیف و تالیف کے رفیق ہیں، علمی، تحقیقی ذوق سے بہر و رہیں اور مختلف موضوعات پر لکھتے
رہتے ہیں، ملک کے اہم رسائل میں ان کے مضمایں شائع ہوتے رہتے ہیں۔
پیش نظر رسائل میں اگوٹے چونے سے متعلق مفتی محمد راشد صاحب نے بحث
کی ہے، جو تحقیق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے اور انتہائی دلچسپ بھی ہے۔
ساتھ ہی مختلف فتاویٰ بھی بحث میں شامل کیے ہیں، اور علماء دیوبند کے ملک کی
صداقت و حقانیت کو عمدہ طریقے سے ثابت کیا ہے۔
احقر کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رسائل سے اپنے بندوں کو مستفید
فرمائیں اور مفتی صاحب کے لیے بطور صدقۃ جازیہ اس رسائل کو حسن قبول عطا فرمائیں۔
آمین ثم آمین

شیخ الحدیث حضرت اقدس مولا نا (سلیم اللہ خان) صاحب زید مجدد ہم العالیہ
جامعہ فاروقیہ کراچی

۱۸ اریش الاول، ۱۴۳۵ھ بھطابی ۲۰ جنوری ۲۰۱۳ء

حضرت اقدس مولا نامفیت عبدالباری صاحب دامت برکاتہم العالیہ
ناسب رئیس دارالافتاء و استاذ حدیث جامع فاروقی کراچی

تقریظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
أما بعد! اسلام جامع، عالمگیر، کامل اور مکمل دین ہے، اس کے کامل و مکمل
ہونے کا گواہ خود قرآن کریم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَّتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا﴾ (المائدۃ: ۳).

واضح رہے کہ یہ آیت مبارکہ آپ ﷺ کی وفات کے ۸۱ روز قبل
ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجمع عظیم میں ہروز جمعہ میدان عرفات
میں عصر کے وقت نازل ہوئی، اس اعلانِ خداوندی کے بعد یہ دین مکمل اور تام ہے،
اس میں ادنیٰ کی بھی مخالفت ہے نہ زیادتی کی، اور نہ ہی کسی قسم کے حذف و اضافہ
کی، اس کے بعد اس میں اضافہ چاہے وہ "تعبد" کی شکل میں ہو یا "تجدد" کے ویرہن
میں، اس دین کے نامکمل اور ناتمام ہونے کا اعلان ہے، امام دارالجہر و امام مالک رحمہ
اللہ فرماتے ہیں:

”من ابتداع فی الإسلام بدعة يراها حسنة،“

فقد زعم أن محمداً ﷺ خان الرسالة؛ لأن الله يقول:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ إِلَخ﴾ . فإنما يكن يومئذ
دينا، فلا يكون اليوم ديناً. (تهذيب الفروق والقواعد
السننية في الأسرار الفقهية، الفرق الثاني والخمسون
والستنان بين قاعدة ما يحرم من البدع وينهى عنه وبين
قاعدة ما لا ينهى عنه : ۳۹۰ / ۴)

ترجمہ: جس نے اسلام میں کوئی بدعت نکالی، جس کو
وہ اچھا سمجھتا ہو تو اس نے یہ گمان کیا کہ حضرت محمد ﷺ نے
ادائی رسالت میں خیانت کی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
”آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کمل کر دیا ہے“،
پس جو چیز اس وقت دین نہیں بنی سکی تھی، وہ آج بھی ہر گز دین
نہیں ہو سکتی۔

اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں بدعت اور اس کے مرکبین کی خت
ترین الفاظ میں نہ مت بیان کی گئی ہے، چنانچہ اجنبی اکرم ﷺ نے ارشاد
فرمایا:

”من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو
رد“ (صحیح البخاری، باب إذا اصطلحوا على جور
 فهو مردود: ۱/۳۷۱، رقم الحدیث: ۲۶۹۷)

ترجمہ: جس نے دین کے معاملہ میں کسی نئی بات کا

اضافہ کیا (یا کوئی ایسا عمل کیا جو آپ ﷺ سے ثابت نہیں) وہ

مردود ہے۔

ای طرح آپ ﷺ نے ایک مرجب خطبه دیتے
ہوئے ارشاد فرمایا:

”شُرُّ الْأَمْوَارِ مُحَدَّثَاتٌ، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ،
وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالٌ“.

ترجمہ: وہ کام ہر مدرسے میں جو (دین میں) تھے گھرے
جانکیں اور ہر قبیلی چیز بدعوت ہے اور ہر بدعوت گمراہی ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الصلاۃ، باب تخفیف الصلاۃ
والخطبة، ص: ۳۴۷، رقم الحدیث: ۵، دار
السلام، ریاض)

(سنن ابن ماجہ، باب اجتناب البدع والجدل،
ج: ۱/۷۴، رقم الحدیث: ۴۶، دار الجیل، بیروت)

اور سنن نسائی کی روایت میں ”وَكُلُّ ضَعْلَالٍ فِي
النَّارِ“ کا اضافہ ہی ہے۔ (سنن النسائی، کتاب صلاۃ
العیدین، باب کیف الخطبة، رقم الحدیث: ۲۵۷۸)

بعضیں کا رویہ یہ ہے کہ بدعوت کے بارے میں انہیات سخت رہا ہے،
اجھیں کا رویہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم

چنان چاہ! أَنْقَهَ الصَّحَابَةَ حَفَرَتْ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ مُسْوَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَمَّاَتْ

ہیں:

”ابیعوا آثارنا، ولا تبتدعوا، فقد كفیتم“ ترجمہ: تم ہمارے نقش قدم پر چلو، اور نی بدعات ایجاد نہ کرو، اس لیے کہ تم کفایت کیے گئے ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ بھی متقول ہے کہ:

”علیکم بالعلم ولایاکم والتبعد“。(الاعتصام، ص: ۲۱، ۲۲، دارالعرفة، بیروت) ترجمہ: تم علم کو لازم کنڈو اور بدعات ایجاد کرنے سے بچو۔

صاحب المسر حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”کل عبادۃ لم یتَبَعِّدُهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَا تَبَعِّدُوهَا“.

ترجمہ: ہر وہ عبادت جس کو حضرات مجاہد کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کیا، سو تم بھی اس کو مت کرو۔ (الاعتصام، ص: ۳۱۱، دارالعرفة، بیروت)

رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”ما یأتی علی النّاس مِنْ عَامٍ إِلا أَحَدَثَنَا فِيهِ بَدْعَةً وَأَمَاتَنَا فِيهِ

سَنَةً“。(الاعتصام، ص: ۱۸، دارالعرفة، بیروت) ترجمہ: لوگ سال بسال بدعات کو گھڑتے اور سنتوں کو ضائع کرتے رہیں گے۔

پھر حضرات فتحیاءؓ کرام رحمہم اللہ نے قرآن و سنت و اقوال مجاہد و تابعین کو سامنے رکھ کر ”کہ بدعات اور اہل بدعات کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے“ بدعی کے بیچھے نماز پر ہنے کو کروہ لکھا ہے، بشرطیکہ وہ بدعی شرکیہ عقائد کا حامل نہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بدعات کی شناخت کے لیے کچھ اصول و علاماتیں بھی ذکر کی ہیں، ان میں سے چند علامات درج ذیل ہیں:

۱۔ افرادی عبادت کو اجتماعی طور پر ادا کرنا
جو فلی عبادتیں افرادی طور پر جائز اور مشرع ہیں، ان کو اجتماعی ہیئت کے
ساتھ ادا کرنا بدعت ہے، جیسا کہ ”فل نماز“ ایک افرادی عبادت ہے، اس کو جماعت
کے ساتھ (سوائے نماز تراویح کے) ادا کرنا درست نہیں، اسی طرح نوافل کے بعد دعا
کرنا بھی ایک افرادی عمل ہے، اگر اس کو اجتماعی طور پر کیا جانے لگے، تو وہ بدعت ہو
گی۔

۲: وقت کی تعین

جس عمل کا شرعی اختیار سے کوئی وقت مقرر نہ ہو، بلکہ اس کو مطلق چھوڑ دیا گیا
ہوا ورنہ ہی شریعت میں اس وقت کی اہمیت کی تعلیم دی گئی ہو، تو اس عمل کے لیے اپنی
طرف سے وقت مقرر کرنا اور اس کو اہمیت دینا بدعت ہو گا۔

علامہ شاطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ومنها التزام العبادات المعينة في
أوقات معينة، لم يوجد لها ذلك التعين في الشريعة.“ (الاعتصام، ص:
۲۶، دار المعرفة، بیروت). ترجمہ: ان (بدعات) میں سے خاص اوقات کے اندر
ایک عبادات تو معینہ کا التزام کر لینا بھی ہے، جن کے لیے شریعت نے وہ اوقات نہیں
کیے ہیں۔

جیسا کہ شب عرفہ میں یا عرفہ کے دن جمع ہو کر اجتماعی دعا طور پر دعا کرنا
(ایک زمانہ میں یہ ہوا کرتا تھا) تاکہ اہل عرفہ کا ساتھ مشاہد ہو جائے، بدعت ہے،
صاحب کفر فرماتے ہیں: ”والتعريف بشيء“. اس کی تشریع میں علامہ عینی فرماتے

ہیں: ”والتعريف وهو أن يجتمع الناس يوم عرفة في بعض المواقع تشبيها بالواافقين، ليس بشيء والظاهر أنه مكره؛ لأن الوقوف عرف عبادة مختصة بالمكان المعين، فلا يكون عبادة في غيره، كسائر المناسبك“۔ (رمز الحقائق، کتاب الصلاة، باب العيدین: ۱۰۳/۱) إدارة القرآن بکراتشی)

اسی طرح جناب نبی اکرم ﷺ کی پیدائش کے دن اہتمام و خصوصیت کے ساتھ خوشیاں مناننا اور اسے عید قربادیا بدعوت ہے۔

علامہ شاطبی رحمہ اللہ کھتی ہیں: ”ومنها التزام الكيفيات والهیئات المعينة واتخاذ يوم ولادة النبي عليه السلام عیداً أو ما أشبه ذلك“۔

(الاعتصام، ص: ۲۵، دار المعرفة، بیروت)

۳۔ مسخرات کو واجب کا درجہ دینا

دین اور شریعت میں جو چیز واجب نہ ہو، لیکن اس کو اس قدر ضروری سمجھا جائے کہ نہ کرنے والوں پر لوگ لعن طعن شروع کر دیں اور ان پر ملامت کرتے رہیں اور اس کے ضروری ہونے کا شبہ ہونے لگے، تو یہ بھی بدعوت ہے۔ اور اس کا ترک لازم ہے، جیسا کہ مرقاۃ المفاتیح میں ہے:

”من أصر على مندوب، وجعله عزماً، ولم يعمل

بالرخصة، فقد أصاب منه الشيطان من الإضلal،

فكيف من أصر على بدعة أو منكر۔ (كتاب الصلاة)

(۲۶۰۳، رشیدیہ)

۷۔ خاص پڑھات و کیفیات کی تعین

کسی جائز عمل کے لیے قرآن و حدیث میں کوئی خاص بیت اور کیفیت ثابت نہ ہو تو اپنی طرف سے اس کا حدود و قیود مقرر کرنا اور ان کا التزام کرنا بھی بدعت ہے، مثلاً: جناب نبی اکرم ﷺ پر درود پڑھنا ایک سنت^ا ہے اور بعض حالات میں تو واجب ہے، لیکن اس کے لیے قیام کو ضروری سمجھنا اور اذان سے پہلے پڑھنے کو ضروری قرار دینا خیر القرون سے ثابت نہیں، لہذا یہ بدعت ہے۔

۸۔ موقع محل کی عدم رعایت

جو جائز عمل کسی خاص کام کے لیے ثابت نہ ہو، اس کو اپنی طرف سے کسی کام کے لیے تحقیق کر لینا بدعت ہے، جیسا کہ ”اذان“ کردہ پانچوں نماز کے لیے مخصوص ہے، اس کے علاوہ بعض اور موقوں پر بھی اس کا ثبوت ہے، لیکن نوافلی کے لیے اذان دینا، عیدین و نماز جنازہ وغیرہ کے لیے اذان دینا قرآن و سنت سے ثابت نہیں، لہذا بدعت ہے۔

ہشام بن عبد الملک نے عیدین کے لیے اذان واقامت کہنے کا حکم جاری کیا، تو علمائے حق نے اسے بدعت اور مکروہ قرار دیا اور اس کی تردید کی۔ (الاعتصام، ص: ۳۱۷، دار المعرفة، بیروت)

ہمارے زمانے میں فتنے کے موقع پر اذان دینے کا رواج ہے، حضرات فقہائے کرام نے اس موقع پر اذان دینے کو بدعت کہا ہے۔

علامہ شامی فرماتے ہیں: "لَا يَسِنُ الْأَذَانُ عِنْدَ إِدْخَالِ الْمَيْتِ فِي قَبْرِهِ، كَمَا
هُوَ الْمُعْتَادُ إِلَيْهِ، وَقَدْ صَرَحَ أَبْنُ حَجْرٍ بِأَنَّهُ بِدُعَةٍ". (رد المحتار، کتاب الصلاة،
باب صلاة الجنائز: ۱/۶۶۰، دلیل حیات التراث العربي)

۲۔ کسی واحد کی وجہ سے دین میں کسی یا زیادتی کا شہر پیدا ہو سکتا ہو یا کسی کم
درجے کے عمل کے بارے میں زیادہ اہمیت کا اظہار کیا جائز ہا ہو، تو وہ بھی منسوع اور
بدعت ہو گا۔

علامہ شاطئی فرماتے ہیں: "وَبِالْجَمْلَةِ فَكُلُّ عَمَلٍ لَهُ أَصْلٌ ثَابِثٌ
شَرِيعًا إِلَّا أَنْ فِي إِظْهَارِ الْعَمَلِ بِهِ وَالْمُدَارِمَةِ عَلَيْهِ مَا يَخَافُ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ
سَنَةٌ، فَتَرَكَ مَطْلُوبَ فِي الْجَمْلَةِ أَيْضًا مِنْ بَابِ سَدِ النِّرَائِعِ". (الاعتصام،
ص: ۳۲۸، دار المعرفة، بیروت) ترجمہ: حاصل یہ ہے کہ جس عمل کا ثبوت شرعی
موجود نہ ہو، لیکن اس پر علی الاعلان عمل کرنے اور پابندی کرنے کی صورت میں اس
بات کا اندریشہ ہو کہ اسے سنت سمجھا جانے لگے گا، تو سدا للذرائع اسے چھوڑ دینا
مطلوب ہے۔

۳۔ غیر مسلموں کے ساتھ مشاہدہ
وہ امور جن میں غیر مسلموں کے ساتھ نہ ہی اعمال میں مشاہدہ ہو وہ بھی
بدعت ہیں، مثلاً: مسلمانوں کا غیر مسلموں کے تھوار کے دنوں میں جمع ہونا اور عبادت
کرنا۔ علامہ شاطئی فرماتے ہیں: کسی زمانے میں الیں سنت کی ایک جماعت نوروزہ اور

مہرجان کے دنوں میں روزہ رکھتے اور عبادت کرتے تھے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ خراصی رضی اللہ عنہ نے اسے بدعت قرار دے کر فرمایا: "بدعة من أشد البدع".

"وخرج ابن وضاح من حديث أبان بن أبي

عباس، قال: لقيت طلحة بن عبید الله الخراصي،

فقلت له: قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة لا

يطبعون على أحد من المسلمين، يجتمعون في بيته

هذا يوماً وفدي بيته هذا يوماً ويجتمعون يوم النيروز

اول مهرجان ويصومونها، وقال طلحة: "بدعة من أشد

البدع". (الاعتصام، ص: ۳۲۵، دار المعرفة، بيروت)

یا غیر مسلموں کی طرح بعض لوگوں کا اپنے لیے مخصوص وضع اور نگ کالباس

مقرر کر لیتا بدعت ہے، اسی طرح مجعوعہ کرننا اور اسے لازم سمجھنا کہ یہ
روافض کا طریقہ ہے۔

بدعات کی تردید

قرآن و سنت کی تعلیمات سے جب معلوم ہوا کہ نئے امور بدعت ہیں،

بدعت کم رائی اور جہنم میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، تو حضرات انبیاء کرام کے درش

اور جانشین علمائے کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ معاشرہ میں ظاہر ہونے والی مردجہ

بدعات کی بھرپور تردید کریں اور ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور لوگوں کو ان سے

نکھنے کی تلقین کریں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور اس کے عکس بالفرض

اگر علمائے کرام اس سلسلے میں سنتی کامظاہرہ کریں اور بدعات کی تردید و نکیر کریں، تو
وہ سخت وعید کے مستحق ہوں گے، چنانچہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

”إِذَا أَحَدَتْ فِي أُمَّتِي الْبَدْعَ وَشَتَّمَ أَصْحَابِيْ،

فَلِيَظْهُرِ الْعَالَمُ عَلَمِهِ، فَمَنْ لَمْ يَفْعُلْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔“ (الاعتراض، ص: ۵۹،

۶۰، دارالعرفة، بیروت)

اسی بنا پر خیر القرون کے زمانے سے لے کر اب تک حضرات سلف صالحین
و نقہائے کرام نے مدل و محققانہ انداز میں ہر نئی گھڑی ہوئی بات، رسم و رواج اور
خرافات کی قرآن کریم کی آیات، نبی کرم ﷺ کی روایات اور حضرات سلف صالحین کی
عبارات کی روشنی میں علمی انداز میں، تقریری طور پر بھی، اور تحریری طور پر بھی تردید کی،
اور ان کا تعاقب کیا۔

زیر نظر کتاب پر بھی اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہے، جو اذاب میں
انگوٹھے چونے سے متعلق ہے، جس میں مؤلف فاضل برادرم حضرت مفتی محمد راشد
ڈسکوئی صاحب حفظہ اللہ نے حاشیہ ابن عابدین، حاویۃ الطحاوی اور تفسیر روح البیان
کی اُن عبارتوں ”جن سے انگوٹھوں کے چونے کے استحباب کا تریخ ہو رہا تھا“ کو ذکر
کر کے ان پر تفصیلی تبصرہ کیا ہے۔ اسی طرح اس سلسلے میں جو موضوع روایتیں ہیں،
کتب احادیث و موضوعات سے تجزیع کر کے ان پر محققانہ کلام کیا، نیز! ان کتب
(مثلاً: کنز العباد، قہستانی، کتاب الفردوس اور فتاویٰ صوفیہ جن میں اس طرح کی
روایتوں کا ذکر کیا گیا ہے) پر حضرات محدثین اور نقہائے کرام کے اقوال کی روشنی میں

تبہرہ کر کے یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کتب کا ایک بڑا حصہ ضعیف اور غیر محقق اقوال پر مشتمل ہے، حضرات تحقیقین کے ہاں فتویٰ دینے کے لیے ان کتب کا یہ مقام نہیں ہے کہ مخفی ان کتب میں مذکورہ مسائل پر فتویٰ دے دیا جائے یا اسے بیان کیا جائے، الایہ کہ اس کی تائید دیگر کتب معتبرہ سے ہو جائے، البتہ ان کتب کے وہ مسائل جو دیگر معتبر کتب کے موافق ہیں، ان کے لینے میں کسی کو کوئی اختلال نہیں۔ علاوہ ازیں امؤلف فاضل نے اس کتاب پر کے باپ دوم میں حضرات اکابر علماء دیوبند کے فتاویٰ کو بھی شامل کیا ہے، جو اپنی جگہ خود بہت سی قسمی اور اہم ابحاث اور نکات پر مشتمل ہیں۔

برادرم حضرت مفتی محمد راشد سکوی صاحب حظ اللہ زمانہ طالب علمی سے ہی تحقیقی ذوق کے حامل اور سیال قلم کے مالک ہیں اور ان کے قلم سے کئی علمی، فقہی، معاشرتی، اصلاحی مضامین (جو ملک کے موقر ماہناموں میں شائع ہوتے رہتے ہیں) اور وقیع کتب محسوس شہود پر آچکی ہیں، کسی مسئلے کے بارے میں جب تحقیق کرتے ہیں تو اپنی مقدور بفرج تحقیق کا حق اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ کسی جہت سے تشفی نہیں رہتا، جس کی جملک موجودہ کتاب پر میں بھی بخوبی ویکھی جاسکتی ہے، یعنیا اس مسئلہ کے بارے میں بھی ان کی تحقیق قابل قدر اور عوام و خواص سب کے لیے گراں قدر علمی تفہم ہے، ہلکی علم کو چاہیے کہ اس سے بھرپور استفادہ کریں۔

اللہ تعالیٰ ان کی مسامی جیلیہ کو شرف قبولیت کا درج عطا فرمائیں، اور ان کی مختون کو بار آور فرمائیں، ان کے لیے بھی اور ہم جیسے تھی سہگان علم عمل کے لیے ذخیرہ آخرت ہائیں۔ آمين

(حضرت مولانا مفتی) عبدالباری (دامست بر کاظم العالیہ)

۱۳ اریج الاول ۱۴۲۵ھ بطابق ۱۵ جنوری ۲۰۱۳ء

حرفِ اول

شخص فی الافتاء کا زمانہ علی شوق، تحقیقاتی ذوق، اپنے ہم درس ساتھیوں سے تجزیج و تحقیق اور حل فتاویٰ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا جذبہ، اکابر اساتذہ کرام کی سرپرستی، راہنمائی، حوصلہ افزائی اور ان کا شفقت بھرا تربیتی انداز، مت نئی کتب کا تعارف اور ان سے استفادہ، گردش زمانہ سے رونما ہونے والے طرح طرح کے سائل کا حل، حل فتاویٰ کے لیے حضرات اساتذہ کی طرف سے اصلاح اول اور اصلاح ہانی کا سلسلہ..... الغرض شخص کی اس دنیا کا اپنا ایک الگ سے ہی جدا گانہ طرز کا مزہ ہوتا ہے، اس دوران بہت سے اہم سائل پر قلم اٹھانے کا موقع ملا، مجلہ ان کے ایک مسئلہ "بعض فقهاء کرام کی انگوٹھا چونے سے متعلق ذکر کردہ عبارت کی توضیح و تتفیع" سے متعلق بھی تھا۔

اس وقت اپنی مقدور بھر اس مسئلہ کا جواب لکھا، وہ جواب استفتاء کے جواب کی حد تک تو کافی تھا، لیکن اس کے بعض مقامات کی تشریع اور وضاحت مزید تفصیل کی مقاضی تھی بعض ہم درس ساتھیوں کی طرف سے بھی تقاضا تھا کہ موقع ملئے ہی اس موضوع پر قلم اٹھاؤں، پھر جامد فاروقیہ کے شعبہ تصنیف و تالیف کے ساتھ مسلک ہو کر حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تقریر بخاری "کشف الباری عما فی صحیح الباری" کی توضیح، تجزیج و تحقیق میں

مصنوفہ رہا، درایں اثناء ماضی قریب میں اسی مسئلہ کے بارے میں ایک بار پھر شور وکل ہوا، اس باطل پروپیگنڈے کی بنا پر بعض طلباء تک اس بارے میں بہت زیادہ تشویش میں بٹلا تھے، کہ ہماری ہی کتب میں اتنے بڑے بڑے فقہاء نے اس مسئلہ کو ذکر کیا ہے، آخر اس کی کچھ حقیقت ہو گئی تو ہم انہوں نے ذکر کیا ہے نا..... ایخ، چنان چہ! اس سابقہ فتویٰ پر از سر نظر ڈالنے کا موقع ملا، جو عہد عنہا کتب سے مراجعت کرنے کے بعد نکمل عبارتیں نہیاں احتیاط سے نقل کیں، ان کے دلائل کا جائزہ، ان کے اصل مأخذ کی طرف رجوع کر کے ان کی حیثیت کو، ان کی مشہت کو متعلقہ امہات اکتب کی روشنی میں واضح کر دیا گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ذکر کردہ بحث کی تقویت اور تفہیت بیان کرنے کے لیے مسئلہ محوٹ عنہا سے متعلق اکابرین امت کے وقیع فتاویٰ بھی بآپ دوم میں نقل کر دیے گئے ہیں، جو اپنی مجھے مخصوص فتاویٰ ہی نہیں، بلکہ دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں، امید ہے کہ طلباء ساتھی اور عامۃ الناس اس کتاب پچ سے اپنی مقدور بھر استعداد اور قوتِ اخذ کے ساتھ فائدہ اٹھائیں گے، ایسے میں اگر کوئی قابل اصلاح بات، مشورہ اور رائے سامنے آئے تو بندہ کو ارسال کر کے عند اللہ ماجور ہوں۔

میں نہیاں ہی شکر گزار ہوں ہمدرد و فاق المدارس العربیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب زید مجدد ہم العالیہ کا، کہ حضرت اقدس نے اپنی پیرانہ سالی، ضعف شدید، پے درپے امراض اور کثرت مشاغل کے باوجود بندہ کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے اس مجموعے کو دیکھا حوصلہ افزائی کی خاطر کلمات تبریک ثبت فرمائے، اللہ رب العزت تاحیات حضرت اقدس کا مبارک سایہ ہمارے

سروں پر بجا فیت قائم و دامّ رکھے۔

اور میں استاذ مکتوم حضرت مولانا مفتی عبدالباری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی معنوں ہوں کہ انہوں نے اپنی بہت ساری مصروفیات اور مشاغل کے باوجود نہ صرف حوصلہ افزائی کے کلمات یقید تکم فرمائے، بلکہ بدعت کی تباہت و شناخت کو واضح کرنے کے لیے تفصیل اور جامع و مانع مواد تحریر فرمایا۔

آخر میں بندہ دربار خداوندی میں دعا گو ہے کہ وہ اس کاؤش میں ہر مجین و مر بالخصوص برادر مکرم حضرت مفتی طارق امیر خان صاحب حفظہ اللہ (فضل مدرسہ عربیہ رائے و نظر، متخصص فی المحدثین العبوی تعلیمیت جامعہ فاروقیہ کراچی) کو اپنی شایانی شان جزائے خیر عطا فرمائے [کہ حضرت مفتی صاحب نے بلطفہ اس مجموعے کو دیکھا اور منفرد مشوروں اور آراء سے راہ نہماںی بھی فرمائی] اور اس ادنیٰ کی کاؤش کو شرف تقویت سے نوازتے ہوئے امت کے لیے نافع ہنانے اور مزید سے حریکی توفیق عطا فرمائے۔

تحقیق و مجمع

مفتی محمد راشد سکوی عفّا اللہ عنہ

ریڈیشن شعبہ تصنیف و تالیف واستاذ جامعہ فاروقیہ کراچی

۱۹ / ربیع الاول ۱۴۳۵ھجری

باب اول

انگوٹھے چونے سے متعلق
بعض فقہائے احنافؒ کی ایک عبارت کی تحقیق

بسم اللہ الرحمن الرحيم

پس منظر

ماضی قریب میں چند دوستوں نے اذان میں ذکر شہادتیں کے وقت انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے زعم میں انکشاف کیا کہ اس مسئلہ میں خاتمۃ التحقیقین علامہ شامی، علامہ طحا وی اور صاحب جلالین حرمہم اللہ کا فتویٰ بھی یہی ہے، جب یہ پروپیگنڈا از وروثور سے کیا جانے لگا تو خیال ہوا کہ مذکورہ مسئلہ متعلقہ کتب میں دیکھا جائے۔

چنانچہ مذکورہ کتب کی مراجعت کے بعد معلوم ہوا کہ مبتدیین کا یہ مخفی ایک پروپیگنڈا ہے کہ ان حضرات کا فتویٰ "انگوٹھے چونے کے جواز" کا ہے، جب کہ حقیقت اس کے برخلاف ہے، وہ اس طرح کہ اس مسئلہ سے متعلق "حاشیہ ابن عابدین" میں مذکور عبارت کا حاصل یہ ہے کہ علامہ شامی رحمہم اللہ نے دو کتب سے دو قول نقل کیے ہیں، ان کا اپنا کوئی تحریک یا فتویٰ اس جگہ مذکور نہیں ہے، ان دونوں عبارتوں کا تحریکیہ اور ان کی حیثیت آگے آرہی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علامہ صاحب رحمہم اللہ کا اپنا کوئی قول اس جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ ان کا طرز تحریر خود مبتدیین کے خلاف ایک معتبر دلیل کی حیثیت بن رہا ہے۔

علامہ طھطاوی رحمہ اللہ کی عمارت ان کی کتاب "جامعة الطھطاوی علی مرافق الفلاح" میں موجود ہے، علامہ طھطاوی رحمہ اللہ نے بھی دو کتابوں سے دو عبارتیں نقل کی ہیں۔ اور آخر میں ایک جملہ اپنی طرف سے بطور تجھیہ یا تحریر کے ذکر کیا ہے، ان دونوں کتابوں سے منقول عبارتوں اور علامہ صاحب رحمہ اللہ کے تحریریے سے متعلق فقہاءِ کرام کی تحقیقات اور آراء آگے آرہی ہیں۔

"صاحب جلالین کا فتویٰ" کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ صاحب جلالین، یعنی: علامہ جلال ملدین محلی صاحب رحمہ اللہ نے "تفصیر جلالین" میں کہیں بھی اسکی کوئی بات ذکر نہیں کی۔

البتہ "تفصیر جلالین" میں سورہ الأحزاب کی آیت نمبر: ۵۶ کے حاشیہ میں اس مسئلہ سے متعلق ایک تفصیلی عبارت منقول ہے، تفسیر جلالین کے اس حاشیہ سے متعلق (جو ہماری ہندی مطبوعہ تفسیر جلالین پر مطبوع ہے) (ہمیں بات تو جانے کی یہ ہے کہ یہ حاشیہ میں کے قریب مختلف تفاسیر سے منتخب کردہ ہے، لیکن مخفی کون ہے؟! اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، شاید بھی وجہ ہے کہ اس حاشیہ میں بہت سے مقامات پر رطب ویابیں اور غیر مستند باتیں بھی موجود ہیں، البتہ حوشی کے آخر میں موقول تفسیر کا حوالہ اکثر مذکور ہوتا ہے۔

چنان چہ! محوٹ عنہا حاشیہ "تفسیر روح البیان" سے نقل کردہ ہے، ملاحظہ ہو: (الشیخ اسماعیل حقی البروسی رحمہ اللہ کی تفسیر: روح البیان، ۷/۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، سورہ الأحزاب، رقم الآیۃ: ۵۶، مطبع عثمانی) لہذا! اس تیسری عبارت کے بارے میں، اصل نسبت الشیخ اسماعیل حقی البروسی رحمہ اللہ کی

تفسیر: ”روح البیان“ کی طرف کی جانی چاہیے، نہ کہ تفسیر جلایں کی طرف۔
 چنان چہ! تفسیر روح البیان کے اس مقام میں بھی دو کتابوں سے استحباب
 کی عبارات منقول ہے، اُس کے بعد دو کتابوں سے اس عمل کے موضوع ہونے کی
 عبارت منقول ہے، آخر میں صاحب روح البیان کا اپنا کلام ہے، جو استحباب کی طرف
 مشیر ہے۔ ان سب عبارات پر تفصیلی کلام آگئے آ رہا ہے۔
 چنان چہ! اذیل میں پہلے متعلقہ کتب کی عبارات اور پھر ان پر تجزیہ پیش کیا
 جائے گا۔

”حاشیہ ابن عابدین“ کی عبارت

”یستحب أن يقال عند سماع الأولى من الشهادة: ”صلى الله عليك يا رسول الله“، وعند الثانية منها: ”قرأت عيني بك يا رسول الله“، ثم يقول: ”اللهم متعيني بالسمع والبصر“ بعد وضع ظفری الإبهامين على العينين، فلأنه عليه السلام يكنى قائدآله إلى الجنة، كذا في ”كنز العباد“ اهـ قہستانی، ونحوه في ”الفتاوى الصوفية“.

وفي كتاب الفردوس: ”من قبل ظفرى إيهاميه عند سماع ”أشهد أنَّ محمداً رسول الله“ في الأذان، أنا قائدُه ومدخلُه في صفوِّي الجنة“. وتمامه

فی حواشی البحر للرملي عن المقاصد الحسنة
للسخاوي.

وذكر ذلك الجراح وأطال، ثم قال: "ولم
يصح في المرفوع من كل هذا شيءٌ". (حاشية ابن
عابدين، كتاب الصلاة، باب الأذان: ٦٢٨/٢، دار
الثقافة والتراث، دمشق)

ترجمہ: (اذان میں) اپنی شہادت کے سنتے کے
وقت "صلی اللہ علیک یا رسول اللہ" اور دوسری شہادت
کے سنتے کے وقت "قرئ عینی یا رسول اللہ" (اے
اللہ کے رسول! آپ کے سبب میری آنکھوں کو شدید حاصل
ہوئی) کہنا مستحب ہے، مگر اس کے بعد دونوں آنکھوں کے
ناخن آنکھوں پر رکھ کر بیدعا کرے: "اللهم متغنى بالسمع
والبصر" (اے اللہ! مجھے قوتِ سمعت اور بینائی کی دولت نواز
دے) اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرنے والے کو جنت کی طرف
لے جائیں گے، دیکھئے: "کنز العباد" اور "قہستانی"۔ اور اسی
طرح "قاؤی صونیہ" میں ہے۔

اور "كتاب الغردوں" میں ہے: "جس شخص نے
اذان میں "أشهد أنَّ محمداً رسولَ الله" سنتے وقت اپنے
دونوں آنکھوں کے ناخنوں کو چوما، میں اسے جنت کی صفوں میں

داخل کروں گا، اور اس بحث کی پوری تفصیل علامہ سخاویؒ کی کتاب ”القصد الحرمۃ“ کے حوالے سے علامہ رفیعیؒ کے ابھر الرائق کے حواشی میں ہے۔ علامہ جرجاہیؒ نے اسے تفصیل سے بیان کرنے کے بعد کہا ہے کہ ”اس بحث میں کوئی بھی مرفوع روایت صحیح نہیں ہے۔“

”مَهْمَةُ الطَّحاوِيِّ عَلَى مَرَاقِ الْفَلَاحِ“ کی عبارت

”ذَكْرُ الْقَوْسَانِيِّ عَنْ كَنْزِ الْعِبَادِ أَنَّهُ“

”يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ سَمَاعِ الْأُولَئِيِّ مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ“، وَعِنْد سَمَاعِ الثَّانِيَةِ: ”قَرَأْتُ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِالسَّمْعِ، وَالبَصَرِ“ بَعْدَ وَضْعِ إِبَاهَمِيَّةِ عَيْنِي، فَإِنَّهُ يَكُونُ قَائِدًا لَّهُ فِي الْجَنَّةِ۔

وَذَكْرُ الدِّيلِمِيِّ فِي الْفَرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: ”مَنْ مَسَحَ الْعَيْنَ بِإِطْنَانِ أَنْمَلَةِ السَّبَابِيْتَيْنِ بَعْدَ تَبَيِّلِهِمَا عِنْدَ قَوْلِ الْمَؤْذِنِ“ أَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ: ”أَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيَتْ بِاللَّهِ رِبِّيْاً وَبِالْإِسْلَامِ دِينِيْاً وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّاً“، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيَّةُ اهْ وَكَذَا رُوِيَ

عن الخضر عليه السلام، وبمثله يُعمل في
الفضائل۔ (سحاشیۃ الطخاطلی علی مراقب الفلاح،
کتاب الصلاة، باب الأذان: ۲۰۵، ۲۰۶)

دار الكتب العلمية
کتاب الصلاة، باب الأذان: ۲۰۵، ۲۰۶

ترجمہ: ”تمہانی“ نے ”کنز العباد“ سے نقل کیا ہے کہ:
پہلی شہادت رسالت کے سنتے کے وقت اپنے دونوں انگوٹھے
آنکھوں پر رکھ کر ”صلی اللہ علیک یا رسول اللہ“ اور
دوسری شہادت کے سنتے کے وقت ”قَرَّتْ عَيْنِيْ بِكَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ، اللَّهُمَّ مَتَعْنَى بِالسَّمْعِ، وَالبَصَرِ؛ كَهنا متحب
ہے، اس لیے کہ آپ ﷺ ایسا کرنے والوں کو جنت میں لے
جائیں گے۔ دیلیٰ نے ”كتاب الفروع“ میں حضرت ابو مکر
صدیق رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث نقل کی ہے: ”جو شخص
مؤذن کی اس شہادت ”أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ“ سنتے
وقت اپنی الگبیوں کے پوروں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر پھیرے
اور یہ کہے کہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور
اس کے رسول ہیں، میں اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین
ہونے اور محمد ﷺ کے نبی ہونے پر راضی ہوا، تو اس کے لیے
میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور اسی طرح حضرت خضر علیہ
السلام سے روایت کیا گیا ہے، اور فضائل میں اس طرح کی

باتوں پر عمل کر لیا جاتا ہے۔

تفسیر جلالین کے حاشیہ (منقول از روح البیان) کی عبارت

”ثم ان للصلة والتسليمات مواطن، فمنها:

أن يصلى عند سماع إسمه الشريف في الأذان، قال

الفهماني في ”شرحه الكبير“ نقلًا عن ”كتنز العباد“:

إعلم أنه يستحب أن يقال عند سماع الأولى من

الشهادة: ”صلى الله عليك يا رسول الله“، وعند سماع

الثانية: ”قرأة عيني بك يا رسول الله“، ثم يقال: اللهم

متعمني بالسمع والبصر، بعد وضع ظفر الإبهامين على

العينين؛ فإنه أنا قاعد له إلى الجنة.

وحضرت شیخ امام ابو طالب محمد بن علی الائمہ رفع اللہ

درجتہ در ”قوت القلوب“ روایت کردہ از ابن عییہ رحمہ اللہ کہ

حضرت ابن عبیط مسجد در آمد، وابو بکر رضی اللہ عنہ ظهر ابہامین

چشم خود راسخ کرد، وگفت: قراءة عيني بك يا رسول الله وچون بلاں

رضی اللہ عنہ از اذان فراغتی روی نمود حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

فرمود کہ ای ابا بکر ہر کہ بگوید آنچہ تو گفتی از روی شوق بلقای من

و بکند آنچہ تو کردی خدا ای در گذا و گناهات ویرا آنچہ باشد نو و کہہ

خطا و عمد و نہان و اشکار اور مضرمات برین وجہ نقل کردہ.

وقال عليه السلام: "من سبع اسمى في الأذان، فقبل ظفرى إبهاميه، ومسح على عينيه لم يهم أبداً".

قال الإمام السخاوي في "المقاصد الحسنة": إن هذا الحديث لم يصح في المرفوع؛ سوال المرفوع من الحديث: هو ما أخبر الصحابي عن قول رسول الله -

وفي شرح اليماني: "ويكره تقبيل الظفريين، ووضعهما على العينين؛ لأنَّه لم يرد فيه، والذي ورد فيه ليس بصحيح".

يقول الفقير: "قد صحي من العلماء تجوير الأخذ بالحديث الضعيف في العمليات، فكون الحديث المذكور غير مرفوع لا يستلزم ترك العمل بضمونه، وقد أصحاب القيمة في القول باستحباته، وكفانا الإمام المكي في كتابه؛ فإنه قد شهد الشيخ السهروري في "عوارف المعارف" بوفر علمه وكثرة حفظه وقوته حاله، وقيل جميع ما أورده في كتابه "قوت القلوب"، ملخصاً من الروح البيان. ولقد فصلنا الكلام وأطنبناه؛ لأن بعض الناس ينماز في

لقلة علمه”。 (حاشية مطبوعة على تفسير الجلالين،
سورة الأحزاب، رقم الآية: ٥٦، ٧٩/٣، ٨٠، مكتبة
البشرى وص: ٣٥٧، قديمي ومنقوله من تفسير روح
البيان للشيخ إسماعيل حقي البروسى رحمة الله،
سورة الأحزاب، رقم الآية: ٥٦، ٢٢٨/٧، ٢٢٩،
مطبعة عثمانية)

ترجمہ: ”پھر درود وسلام کے کچھ مواقع ہیں، مجملہ ان
کے ایک یہ ہے کہ: اذان میں آپ ﷺ کا نام نای سن کر ان پر
درود بھیجے۔ قہتانی“ نے ”کنز العباد“ سے نقل کرتے ہوئے اپنی
”شرح کبیر“ میں ذکر کیا ہے کہ: جان لو کہ یہی شہادت کے سنبھالنے
کے وقت اپنے دونوں انگوٹھے دونوں آنکھوں پر رکھنے کے بعد
”صلی اللہ علیک یا رسول اللہ“ اور دوسری شہادت کے
سننے کے وقت ”قرۃ عینیٰ بک یا رسول اللہ“ (اے اللہ کے
رسول! میری آنکھوں کی خندک آپ سے ہے) کہنا منتخب
ہے، پھر اس کے بعد یہ دعا کی جائے: ”اللهم متعنی بالسمع
والبصر“ تو آپ ﷺ ایسا کرنے والے کو جنت میں لے
جائیں گے۔

حضرت شیخ امام ابو طالب محمد بن علی الحنفی رفع اللہ
درجتہ نے این عینہ رحمہ اللہ سے ”قوت القلوب“ میں روایت

کیا ہے کہ حضور ﷺ مسجد میں تعریف لائے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انگوٹھوں سے اپنی آنکھوں پر سح کیا، اور کہا ”قرۃ عینیٰ بیک یا رسول اللہ“ اور جب حضرت بلاں رضی اللہ عنہ آذان سے فارغ ہوئے تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اے ابو بکر! ہر وہ شخص جو میری ملاقات کے شوق میں وہ کلمات کہے جو تم نے کہے، اور جو قفل تم نے کیا وہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے نئے، پرانے، خطاء، حمد، پوشیدہ اور ظاہر ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں، ”عشرات“ میں اسی طرح نقل کیا گیا ہے۔

اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس شخص نے سیرا نام آذان میں سنا، پھر اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوما اور اپنی آنکھوں پر پھیرا، وہ کبھی غلکین نہیں ہو گا۔“ امام سخاویؒ نے ”القادم الحسنه“ میں فرمایا کہ: ”یہ حدیث مرفوعاً ثابت نہیں ہے“ اور مرفوع حدیث وہ کہلاتی ہے جس میں کوئی صحابی رسول اللہ ﷺ کے قول کی خبر دے۔

اور ”شرح البیانی“ میں ہے: ”دونوں (انگوٹھوں کے) ناخنوں کو چومنا اور انہیں آنکھوں پر رکھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں کوئی چیز وار نہیں ہے، اور جو کچھ وار ہے وہ صحیح نہیں۔“

نقیر (شیخ اسماعیل حقی) کہتا ہے کہ: ”(فضائل)

اعمال کے باب میں ضعیف حدیث پر عمل کرنے کا جواز علماء سے صحت کے ساتھ ثابت ہے، پس مذکورہ حدیث کا غیر مرفوع ہونا اُس کے مضمون پر عمل نہ کرنے کو تنزہ نہیں۔ اور قہستانی "اپنی استحباب کی رائے میں درست ہیں، اور ہمارے لیے امام کی کی اپنی کتاب میں ذکر کردہ بات کافی ہے، اس لیے کہ شیخ سہروردی نے "عوارف المعارف" میں ان (امام کی) کی وسعت علم، کثرت حفظ اور قوت حالی کی شہادت دی ہے۔ اور کہا گیا ہے: کہ جو کچھ انہوں نے اپنی کتاب "قوت القلوب" میں ذکر کیا ہے، وہ "روح البیان" کی تبلیغیں ہے، اور ہم نے (اس موضوع پر) کافی تفصیل کلام کر لیا ہے، اس لیے کہ بعض لوگ اس مسئلہ میں اپنی کم علمی کے سبب تنازع کرتے ہیں"۔

قابل تحقیق امور

مذکورہ بالاعبارات دیکھنے کے بعد دو امور قابل تحقیق معلوم ہوتے ہیں:

(۱) اذان و اقامت میں انگوٹھا چوم کر آنکھوں پر لگانے کا حکم

(۲) مذکورہ کتب میں استحباب کا قول مذکور ہونا

پہلی بحث: اذان و اقامت میں شہادتیں کے وقت انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگانے کے بارے میں قول فیصل یہ ہے کہ مذکورہ عمل نہ مسنون ہے اور نہ ہی مستحب، بلکہ بدعت ہے۔

دوسری بحث: چند کتب فتنہ میں اس فعل کے استحباب کا ذکر۔ اس میں دو پہلو قابل ذکر ہیں:

۱۔ مذکورہ ”قول استحباب“ کے لیے متدل حدیث کی حیثیت۔

۲۔ اس حدیث کے مأخذ کا بیان۔

مذکورہ تینوں کتب میں جس حدیث کو بنیاد بنا�ا گیا ہے، وہ ”حادیۃ الطحاوی علی مراثی الفلاح“ اور ”القادسیۃ الحسینیۃ“ میں الفاظ کے قدرے فرق کے ساتھ موجود ہے، ذیل میں وہ روایت ”حادیۃ الطحاوی علی مراثی الفلاح“ سے نقل کی جاتی ہے:

وذكر الديلمي في الفردوس من حديث أبي

بكر الصديق ص مرفوعاً: ”من مسح العين بباطن أنملة

السبابتين بعد تقبيلهما عند قول المؤذن ”أشهد أن

محمدًا رسول الله“، وقال: ”أشهد أن محمدًا عبده

ورسوله، رضيت بالله ربأ و بالإسلام ديناً وبمحمدٍ عَبْدَهُ

نبيًّا“، حَلَّتْ له شفاعةٌ تِيَّاهٌ.

اور دوسری روایت جس کو بنیاد بنا�ا جاتا ہے، جس کی طرف علامہ طحاوی رحمۃ اللہ نے اشارہ کیا ہے اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ نے اسے مکمل ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے:

عن خضر عليه السلام: أنه من قال حين

يسمع المؤذن، يقول: ”أشهد أن محمدًا رسول الله“

مرحباً بحبيسي، وقرة عيني محمدٌ، ثم يقبل إبهاميه

ویجعلهم علی عینہ، لم یرمد ابداً۔
ان میں سے پہلی حدیث کے بارے میں علامہ سخاوی، ملا علی قاری، علامہ طاہر پنڈی اور علامہ محمد الامیر الکبیر الماکی رحمہم اللہ نے ”لا یصح“ کہتے ہوئے موضوع ہونے کا فیصلہ کیا ہے، ملاحظہ ہو:

(المقاصد الحسنة، حرف الميم، رقم الحديث:

۱۰۱۹، ص: ۴۴۰، دارالكتب العلمية)

(الموضوعات الكبرى للقاري، حرف الميم، رقم

الحادیث: ۸۲۹، ص: ۲۱۰، قدیمی کتب خانہ)

(تذكرة الموضوعات لطاهر الفتني، باب الأذان ومسح

العينين فيه، ص: ۳۴، کتب خانہ مجیدیہ، ملتان)

(النخبة البهیۃ فی الأحادیث المنکذبة علی خیر

البریۃ، رقم الحديث: ۳۱۶، ص: ۱۷، المکتب

الاسلامی)

اور پھر اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے علامہ سخاویؒ اور علامہ شامیؒ نے علامہ جراحیؒ کا قول نقل کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا ہے: ”مجموعہ احادیث میں اس مسئلہ کے بارے میں کوئی صحیح، مرفوع حدیث نہیں ہے“، چنانچہ فرماتے ہیں: ”ولسم یصیح فی المرفوع من کل هذَا شیئٌ“، ملاحظہ ہو:

(المقاصد الحسنة، حرف الميم، رقم الحديث:

۱۰۱۹، ص: ۴۴۰، دارالكتب العلمية)

(حاشیہ ابن عابدین، کتاب الصلاۃ، باب

الاذان: ۶۲۸/۲، دار الشفافۃ والترااث، دمشق)

اور ”المقادیر الحسنة“ کی تعلیمیات میں تو واضح لکھا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ
مجموعہ احادیث میں اس مسئلہ کے بارے میں کوئی تجھی، مرفوع حدیث نہیں ہے، بلکہ اس
عنوان سے تعلق سب سروریات موضوع اور بے سند ہیں، ملاحظہ ہو:

”و حکمی الخطابی فی شرح مختصرة خلیل“

حکایۃ اخیری غیر ما هنا وتوسع فی ذلك ولا يصح

شیع من هذَا فی المرفوع كما قال المؤلف، بل کلمہ

مختلف موضع“۔ (المقادیر الحسنة، حرف الميم،

رقم الحديث: ۱۰۱۹، ص: ۴۴۱، ۴۴۰، دار الكتب

العلمیة)

ایک ممکن اعتراض کا جواب

اور اگر یہ کہا جائے کہ چلو مرفوعاً نہ ہی، موقوفاً تو بہر حال ثابت ہے، اور اتنی
بات عمل کے لیے کافی ہوتی ہے، جیسا کہ ماعلیٰ قاریٰ نے ”الموضوعات الکبریٰ“ میں
لکھا ہے، ملاحظہ ہو:

”قلت: وإذا ثبت رفعه على الصديق، فيكتفي

العمل به لقوله عليه السلام: ”عليكم بستي وسنة الخلفاء

الراشدين“۔ (الموضوعات الکبریٰ للقاریٰ، حرف

المیم، رقم الحدیث: ۸۴۹، ص: ۲۱۰، قدیمی کتب
خانہ).

ترجمہ: ”جب اس حدیث کا رفع حضرت ابو بکر صداق
رضی اللہ عنہ تک صحیح ہو گیا تو حدیث نبوی ﷺ: ”علیکم
بستی و سنة الخلفاء الراشدین“ کی وجہ سے اتعامل کے
لیے کافی ہے۔“

ملا علی قاریؒ کی ایک بات کی تحقیق

تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ اس مقام پر ملا علی قاریؒ سے ذہول ہو گیا
ہے، اس لیے کہ اس ”حدیث“ کی تو سند ہی ثابت نہیں ہے، تو پھر اس کے موقفاً صحیح یا
ثابت ہونے کا کیا مطلب؟! یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اگر مرفوع حدیث صحیح نہیں تو
موقوف صحیح ہو گی، کیوں کہ یہ تور وایت ہی بے سند ہے۔

ملا علی قاریؒ کی اس بات کے بارے میں علامہ عبدالفتاح ابو غدرہ رحمہ اللہ
نے لکھا ہے:

”وَمِنَ الْعَجِيبِ أَنَّ الْمُؤْلَفَ لِيَمَا نَقَلَ فِي
الْمُوْضُوْعَاتِ الْكَبِيرَى قَوْلُ السَّخَاوَىيِّ: ”وَأَوْرَدَ الشَّيْخُ
أَحْمَدُ الرَّزَادَ فِي كِتَابِهِ: ”مَوْجَبَاتُ الرَّحْمَةِ“ بِسَنْدِ فِيهِ
مَجَاهِيلٍ مَعَ انْقِطَاعِهِ عَنِ الْخَضْرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكُلُّ مَا
يُرَوَى فِي هَذَا، فَلَا يَصْحُ رَفْعَهُ الْبَتَّةُ“، تَعَقِّبَهُ بِقَوْلِهِ: ”وَإِذَا

ثبت رفعہ إلى الصدیق، فیکفی العمل به لقوله

مَعْلُومٌ: ”عَلَيْكُمْ بِسْتِي وَسَنَةِ الْخَلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ“، فَكَانَ

تعقبه لا معنی له إلا الخطأ، إذ لم يصح إسناده إلى أبي

بکر۔ (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، رقم

الحادي عشر: ٣٠٠، ص: ١٦٩، ١٧٠، سعيد)

ترجمہ: ”عجیب بات یہ ہے کہ مؤلف“ نے (ذکورہ حدیث کے بارے میں) موضوعات کبریٰ میں علامہ سخاویؒ کا قول نقل کیا (جس سے حدیث کا موضوع ہونا ثابت ہوتا ہے)، اور خود ہی اس (قول ذکر کرنے) کے بعد اپنا یہ قول (جب اس حدیث کا رفع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک صحیح ہو گیا، تو حدیث نبوی ﷺ: ”عَلَيْكُمْ بِسْتِي وَسَنَةِ الْخَلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ“ کی وجہ سے اتنا عمل کے لیے کافی ہے) ذکر کیا ہے، پس ان کے اپنے بعد والے قول کے کوئی معنی نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ ان سے خطاء ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس حدیث کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک بھی سند ثابت نہیں ہے۔

علم حدیث میں ذکورہ روایت کی حیثیت

اور اگر کوئی اس حدیث کو ”حسن“ یا ”ضعیف“ مانے (جیسا کہ بعض اہل

بدعت کا قول ہے: ”صحیح نہ ہونے سے کسی حدیث کا ضعیف ہونا لازم نہیں آتا، کیوں

کہ ”صحیح“ کے بعد ”حسن“ کا درجہ باقی ہے، لہذا یہ حدیث اگر ”حسن“ بھی ہو تو بھی عمل کے لیے کافی ہے۔) تو بھی اس بات کو تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ کتب ضعفاء میں یا کتب موضوعات میں جب کسی حدیث کے بارے میں ”لا یصحح“ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ”موضوع“ ہی ہوتا ہے، نہ کہ حسن یا ضعیف۔ الشیخ عبد الفتاح البغدادی رحمہ اللہ نے ”المصنوع فی معرفة الحديث الموضوع“ کے مقدمہ میں اس بات کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، ملاحظہ ہو:

”قولهم في الحديث: لا يصحح، أو لا يثبت“

.....ونحو هذه التعبير إذا قالوه في كتب الضعفاء

أو الموضوعات، فالمراد به أن الحديث المذكور

موضوع، لا يتصف بشیء من الصحة؛ وإذا قالوه في

كتب أحاديث الأحكام، فالمراد به نفي الصحة

أو بطلانه: (المصنوع فی معرفة الحديث

الموضوع، ص: ۲۷، قدیمی)

بلکہ علامہ زاہد الکوثری رحمہ اللہ نے تو اس بات کو پوری دضاحت کے ساتھ صاف صاف بیان فرمادیا ہے کہ کتب ضعفاء میں جس حدیث کے بارے میں ”لا یصحح“ کہ دیا جائے، تو اس سے ”حسن“ مراد نہیں لے سکتے، بلکہ وہ حدیث باطل ہے، ملاحظہ ہو:

”إن قول النقاد في الحديث: إنه لا يصحح“

بمعنى أنه باطل في كتب الضعفاء والمتروكين، لا

يعنى أنه حسن، وإن لم يكن صحيحاً، كما نص على ذلك أهل الشأن، بخلاف كتب الأحكام، كما أوضحت ذلك في مقدمة "انتقاد المغنى". (مقالات الكوثري، حول حديثين في حديث من أحاديث رمضان، ص: ٤٢، دار السلام)

«مجمع المصطلحات الحدثية»

میں بھی یہی بات پوری تفصیل سے مذکور ہے، ملاحظہ ہو: قوله: "لا يصح". هي لفظة يستعملها المحدثون للأخبار عن عدم ثبوت الحديث في درجة الصحيح، فقولهم في الحديث: "لا يصح"، أو "لا يثبت"، أو "لم يصح"، أو "لم يثبت"، أو "ليس ب صحيح"، أو "ليس ب ثابت"، أو "غير ثابت". أو "لا يثبت فيه شيء"، ونحو هذه الألفاظ، إذ قالوها في كتب الضعفاء أو الموضوعات؛ فمرادهم بها: أن الحديث المذكور موضوع، لا يتصف بشيء من الصحة.

وأما إذا قالوها في كتب أحاديث الأحكام؛ فمرادهم بها نفي الصحة الإصطلاحية؛ لأن فيها عدم

صحیح الحدیث لا یلزم أن یكون موضوعاً. (معجم المصطلحات الحدیثیة، حرف اللام، لا یصح، ص: ٤٤٣، مکتبة زمزم للطباعة والنشر والتوزیع، کراتشی)

محمد شین کرام حمّم اللہ ان قال "لا یصح" کو کسی حدیث کے صحیح نہ ہونے کی خبر دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پس محمد شین کرام حمّم اللہ ان الفاظ "لا یصح"، اور "لا یثبت"، اور "لیم یصح"، اور "لیم یثبت"، اور "لیس بصحیح"، اور "لیس بثابت"، اور "غیر ثابت"، اور "لا یثبت فیه شیع"، کا استعمال جب کتب ضفاء میں ہو یا کتب موضوعات میں ہو تو محمد شین کی ان الفاظ سے مراد اس حدیث کے موضوع ہونے کو بتانا ہوتا ہے، کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

اور جب محمد شین ان الفاظ کا استعمال احادیث احکام کی کتب میں کرتے ہیں تو ان کی مراد اصطلاحی صحت کی نظر کی خبر دینا ہوتا ہے، کتب احادیث احکام میں "عدم صحت" موضوع ہونے کو تنزہ نہیں ہوتی۔

چنانچہ! مفترض کی بات (صحیح نہ ہونے سے کسی حدیث کا ضعیف ہونا لازم نہیں آتا، کیوں کہ "صحیح" کے بعد "حسن" کا درجہ باقی ہے، لہذا یہ حدیث اگر "حسن" بھی ہو تو بھی عمل کے لیے کافی ہے) کا کسی درجہ میں بھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا، اور مذکورہ حدیث باطل ہے۔

ملا علی قاریؒ کا نکورہ کلام (کہ روایت اگرچہ مرفوعاً ثابت نہیں، موقوفاً ثابت ہے) اس لئے بھی محل نظر ہے کہ ملا علی قاریؒ ہی کے نزدیک حافظ سخاویؒ یادگیر محمد شین کا یہ کلام (لا یص صح) لم یثبت کے معنی میں بھی ہوتا ہے، مثلاً: ملا علی قاریؒ ”الأسرار المرفوعة“ میں ہی حدیث: ”من طاف بهذا البيت أسبوعاً……الخ“ کے تحت لکھتے ہیں:

”لا يقال: إنه موضوع، غایته أنه“

ضعیف، مع أن قول السخاوي: لا یصح، لا ینافي
الضعف والحسن، إلا أن يريد به أنه لا یثبت، وكان
المنوفي فهم هذا المعنی حتى قال في ”مختصره“: إنه
باطل، لا أصل له. (الأسرار المرفوعة في الأخبار
الموضوعة، حرف الميم، رقم الحديث: ١٥٠، ص:
٣٣٥ المكتب الإسلامي)

اس کلام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ملا علی قاریؒ کے نزدیک بھی لفظ لا یصح بعض اوقات لم یثبت کے معنی پر محول ہوتا ہے۔ زیر بحث موقع پر اگرچہ ملا علی قاریؒ نے روایت کے موقوف ہونے کی وجہ نظر فرمایا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ لا یصح یہاں لم یثبت کے معنی میں ہے، جیسا کہ علامہ زاہد الکوثریؒ اور شیخ ابو شعراۃؒ کے کلام سے ظاہر ہے، اس لیے ملا علی قاریؒ کا کلام ان کی ہی تصریحات کی روشنی میں محل نظر ہے، اور صحیح یہ ہے کہ یہاں (لا یص صح) لم یثبت کے معنی پر محول ہے، جس کے نتیجے میں مذکورہ حدیث باطل اور موضوع کے حکم میں ہوگی۔

دوسری روایت کی تحقیق

دوسری روایت ”جو حضرت خضر علیہ السلام سے مردی ہے“ کے بارے میں علامہ تقاوی، علامہ طاہر پنڈی اور ملا علی قاری حبیم اللہ نے لکھا ہے کہ اس روایت کی سند میں بہت سے راوی ایسے ہیں، جو مجبول ہیں۔ ملاحظہ ہو:

”وكذا ما أورده أبو العباس أحمد بن أبي بكر

الزداد اليماني المتتصوف في كتابه "موجبات الرحمة
وعزائم المغفرة" بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن
الحضر عليه السلام أنه: من قال حين سمع
إلخ.“.

(المقاصد الحسنة للسعادوي، حرف الميم، رقم

الحادي: ١٠١٩، ص: ٤٤١، دار الكتب العلمية)

(الموضوعات الكبرى للقاري، حرف الميم، رقم

الحادي: ٨٢٩، ص: ٢١٠، قدیمی کتب خانہ)

(تذكرة الموضوعات لطاهر الفتني، باب الأذان ومسح

العينين فيه، ص: ٣٤، کتب خانہ مجیدیہ ملتان)

ابو العباس احمد بن ابی بکر الزدادی یمانی صوفی اپنی

کتاب ”موجبات الرحمة وعزم المغفرة“ میں حضرت

حضرت کی متفق روایت کو ایسی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے جس میں

بہت سارے روایتی مجموعہ ہیں (یعنی ان کا تذکرہ ہی کتب اسماء الرجال میں نہیں ملتا)۔

الغرض یہ تو ان روایت کا حال تھا، جن سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اب ایک نظر ان کتب پر بھی ذال لئی چاہیے، جن میں سے یہ روایات نقل کی جاتی ہیں، یا جن کتب میں یہ مسئلہ مذکور ہے۔

روایات کے مأخذ کا بیان

چنان چہ اعلامہ شاہی رحمۃ اللہ علیہ میں سکلہ اور روایات کے مأخذ میں کنز العباد، قہستانی، کتاب المفردوس اور فتاویٰ صوفیہ کا حوالہ دیا ہے، علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب المفردوس اور کنز العباد کا حوالہ دیا ہے، صاحب تفسیر روح البیان نے اس مسئلہ میں حوالہ قہستانی اور قوت القلوب کا دیا ہے۔

مجموعی طور پر مذکور تمام کتب غیر معتر ہیں، ان کتب کے صرف وہ مسائل معتر شمار ہوں گے، جن کی تائید وسری معتر کتب سے ہو جائے۔

”کنز العباد“ کے بارے میں علامہ لکھنؤی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں:

وَكَذَا ”كنز العباد“ فِإِنَّهُ مَمْلُوَّةٌ مِّنَ الْمَسَائِلِ
الْوَاهِيَةِ وَالْأَجَادِيَّةِ الْمَوْضُوعَةِ، لَا عِبْرَةَ لَهُ، لَا عِنْدَ
الْفَقِيهَاءِ وَلَا عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ، قَالَ عَلَى الْقَارِي فِي طَبِيبَاتِ
الْحِنْفِيَّةِ: ”عَلَيْيَ بنَ أَحْمَدَ الغُورِيِّ..... بِرَوْلِهِ“

”كنز العباد في شرح الأوراد“، قال العلامة جمال الدين المرشدي: فيه أحاديث سمعجة موضوعة لا يحل سماعها، انتهى^۱. (النافع الكبير على الجامع الصغير، مقدمة الجامع الصغير، الفصل الأول في ذكر طبقات الفقهاء والكتب، ص: ۲۷، إدارة القرآن كراتشي)

اور اسی طرح ”كنز العباد“ میں ایسے مسائل و اہمیت اور احادیث موضوع بھری ہوئی ہیں، جن کا محدثین اور فقهاء کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں، ملا علی قاری ”طبقات حنفیہ“ میں فرماتے ہیں کہ علی بن احمد الغوری کی ایک کتاب ”كنز العباد“ فی شرح الأوراد“ ہے۔ علامہ جمال الدین المرشדי فرماتے ہیں: اس کتاب میں اسکی موضوع احادیث بھری ہوئی ہیں، جن کا سننا سمجھ نہیں ہے۔

”فتاویٰ صوفیہ“ کے بارے میں حاجی خلیفۃ، علامہ زرکلی اور علامہ لکھنؤی فرماتے ہیں:

”الفتاوى الصوفية في طريق البهائية“ لفضل الله محمد بن أيوب المنتسب إلى ماجو. قال صاحب كشف الظنون: قال المولى البر كلي: الفتاوی الصوفیة

لیست من الكتب المعتبرة، فلا يجوز العمل بما فيها
إلا إذا علم موافقتها للأصول”۔ (كشف الظنون عن
أسامي الكتب والفنون، حرف الفاء: ۱۲۲۵/۲، دار
إحياء التراث العربي، بيروت)

(الأعلام للزركلي، الماجورى: ۴۷/۶، دار العلم
للملايين، بيروت)

(النافع الكبير على الجامع الصغير، مقدمة الجامع
الصغير، الفصل الأول في ذكر طبقات الفقهاء
والكتب، ص: ۲۷، إدارة القرآن كراتشي)

ترجمہ: ”الفتاوى الصوفية في طريقة البهائية“
علامہ فضل اللہ محمد بن ابیوب۔ جو ماجوکی طرف منسوب ہے اور ان
کی وفات ۲۲۶ ہجری میں ہوئی۔ کی تصنیف ہے، مولیٰ برلنی
فرماتے ہیں: ”فتاویٰ صوفیہ معتبر کتب میں سے نہیں ہے، اس
میں موجود کسی مسئلہ پر اس وقت تک عمل نہیں کرنا چاہیے جب
تک اس مسئلہ کی موافقت اصول کے مطابق صحیح نہ ہو جائے۔“

”قہستانی“ کے بارے میں علامہ لکھنؤی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
قہستانی کی کتاب ”جامع الرموز“ ہے، ان کا پورا نام شمس الدین محمد خراسانی
قہستانی ہے، انہوں نے ”کنز العباد“ سے نقل کرتے ہوئے مذکورہ مسئلہ ذکر کیا ہے،

”علامہ عصام الدین“ قہستانی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے میں صرف کتابوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، اور اپنے ہم عصر علماء کے درمیان نہ ہی بطور فقیر مشہور تھے اور نہ ہی فقہ کے علاوہ کسی اور علم کے ماہر۔ اس بات کی دلکشی اور ایجاد سے ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں ہر کمی کی بات اور صحیح اور غیر صحیح اور مدقق کے جمع کر دی ہے ملاحظہ ہو:

وقال المولى عصام الدين في حق القهستاني:

”إنه لا يعرف الفقة ولا غيره بين أقرانه ويوبيده

أنه يجمع في شرحه هذا بين الفث والسمين،

والصحيح والضعيف من غير تصحيح ولا تدقيق، فهو

كمحاطب الليل جامع بين الرطب واليابس في النيل،

وهو العوارض في ذم الروافض، إلخ : (النافع الكبير

على الجامع الصغير، مقدمة الجامع الصغير، الفصل

الأول في ذكر طبقات الفقهاء والكتب، ص: ٢٧، إدارة

القرآن كراتشي)

”قہستانی“ کے بارے میں علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”والقهستاني“ كجارف سیل وحاطب لیل.

(تنقیح فتاوی الحامدية، کتاب الحظر والإباحة:

وَكَذَا فِي عَمَدةِ الرِّعَايَةِ عَلَى شَرْحِ الْوَقَائِيَّةِ، ص: ١٠،

(مکتبہ إمدادیہ، ملتان)

ترجمہ: ”قہستانی“ ہر مُحقّق اور غیر مُحقّق مسائل کو جمع کرنے والے ہیں۔ (”جارف لیل“ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سیلا ب اپنے ساتھ ہر قسم کی خس و خاشک کو بہا لاتا ہے، اسی طرح قہستانی نے اپنی کتاب میں ہر قسم کے (معتر اور غیر معتر) مسائل جمع کر دیئے ہیں، اور ”حاطب لیل“ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی شخص رات کے اندر یہ میں لکڑیاں چننے والا ہو، تو اسے کوئی خبر نہیں ہوتی کہ وہ کس قسم کی لکڑیاں چن رہا ہے، اسی طرح قہستانی نے بھی اپنی کتاب میں ہر طرح کے مسائل جمع کر دیئے ہیں اور اسے کوئی خبر نہیں کہ اس نے کیسے مسائل جمع کیے ہیں، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ عمدہ ہیں یا غیر عمدہ، محقق ہیں یا غیر متحقق)

”فردوس للدین بلجی“ کے بارے میں امام تیمیہ، حافظ جلال الدین

سیوطی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں:

امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”فردوس

للدلیلی“ کے مؤلف ”الحافظ شیرویہ بن شہزادار بن

شیرویہ رحمہ اللہ“ ہیں۔

(تاریخ الإسلام للذهبی، حرف الشین: شیرویہ،

۲۱۹/۳۵، ۲۲۰، دار الكتاب العربي، لبنان)

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”کتاب

الفردوس فیہ من الأحادیث الموضوعات ما شاء الله
ومصنفه شیرویہ بن شهردار الدیلیمی وان کان من طلبة
الحدیث ورواته، فإن هذه الأحادیث التي جمعها
وحذف أسانیدها نقلها من غير اعتبار
لصحبها وضعيتها وموضوعها، فلهذا كان فيہ من
الموضوعات أحادیث كثيرة جداً۔

ترجمہ: کتاب الفردوس میں موضوع روایات بھری
ہوئی ہیں، اس کتاب کے مصنف ”شیرویہ بن شهردار الدیلیمی“
رحمہ اللہ اگرچہ حدیث کی تلاش میں پھرنے والے اور حدیث
روایت کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے ان احادیث کو جن کو
ان کی سندوں کے بغیر جمع کیا ہے، صحیح، ضعیف اور موضوع کا
اعتبار کیے بغیر ہی نقل کر دیا ہے، اسی وجہ سے اس کتاب میں
موضوع احادیث بہت زیادہ تعداد میں جمع ہیں۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں: ”کتاب الفردوس

للدیلیمی فیہ موضوعات كثيرة، أجمع أهل العلم على
أنَّ مجردَ كونِه روایة لا يدلُّ على صحةِ الحديثِ۔

(منهاج السنۃ النبویہ لابن تیمیہ: ۳۹/۵، الفصل الخامس، و: ۱۱۰/۷، الفصل الثاني عشر، مؤسسة قرطبة)

ترجمہ: دیلمی کی کتاب الغردوں میں موضوع احادیث بہت زیادہ ہیں، اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ کسی حدیث کا محض اس کتاب میں ہونا اس کے صحیح ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔

حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”کل ما غزیٰ لهولا، الأربعة -أی: الضعفاء للعقيلي،
الكامل لابن عدي، التاريخ للبغدادي، التاريخ لابن
عساكر - أو للحكيم الترمذى في نوادر الأصول أو
للحاكم في تاريخه أو لابن جارود أو للديلمي في
مسند الغردوں فهو ضعيف، فليستغن بالعزى إليها أو
إلى بعضها عن بيان ضعفه“۔ (جمع الجوامع، دیساجہ
قسم الأقوال من جمع الجوامع (الجامع الكبير):

۲۱۱، دار الكتب العلمية

ترجمہ: ”..... دیلمی کی مسند فردوس میں جو
پچھڑ کر ہے، وہ ضعیف ہے، کسی حدیث کی نسبت کا اس کتاب
کی طرف ہونا ہی اس (ضعیف) حدیث کے ضعف کو بیان

کرنے سے مستغفی کر دیتا ہے۔

الدكتور نور الدین عتر رحمه اللہ حافظ صاحب رحمہ اللہ کی اس بات کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس (مطلق حکم) سے مراد وہ احادیث ہیں، جو صرف انہی کتب میں مذکور ہوں، ان کے علاوہ کہیں اور مذکور نہ ہوں، یعنی: یہ حضرات اپنی کتب میں لقل کرنے والی احادیث میں متفرد ہوں، ملاحظہ ہو: ”مصادرٌ نصَّ العلماء على أن تفردُها بِحَدِيثٍ أَمَّا
على ضعفه، قال السيوطي في ديباجة كتابه الجامع الکیر: ”كُلُّ مَا غُزِيَ لَهُ وَلَا
الأربعة.....إلخ“۔ (منهج النقد في علوم
الحدیث، الباب الرابع في علوم الحدیث من حيث
القبول أو الرد، الفصل الثاني في أنواع الحدیث
المردود، مصادر الحدیث الضعیف، ص: ۲۹۷،
۲۹۸، دار الفکر، بیروت)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ ان کے بارے
میں فرماتے ہیں: ”.....ولکنه غير مُتَّقِنٍ ولا
يُمَيِّزُ بَيْنَ الْبَصِيرِ وَالسَّقِيمِ، وَمِنْ أَمْتَلًا كتابه من
الْأَحَادِيثِ الْمُوْضُوعَةِ وَالْوَاهِيَةِ“۔ (بستان المحدثین

للدهلوی، فارسی، ص: ۱۶۲، سعید. و مترجم بالعربیة

للدكتور محمد أكرم السندي، بحث فردوس

للدیلمی، ص: ۱۸۰، دار الغرب الاسلامی)

ترجمہ: ”لیکن ثقہ اور قابل اعتماد نہیں ہیں، یہ صحیح

روایت اور ضعیف روایت کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتے،

اسی وجہ سے ان کی (مذکورہ) کتاب موضوع اور بے سند احادیث

سے بھری ہوئی ہے۔

مذکورہ کتب سے مسئلہ لینے کا حکم

ان کتب میں مذکور کسی مسئلہ پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں

علامہ لکھنؤی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”والحكم في هذه الكتب الغير المعتبرة أن لا

يُؤخذ منها ما كان مخالفًا لكتب الطبقة الأعلى،

ويتوقف في ما وُجد فيها مالم يدخل ذلك في أصل

شرعية“.. (النافع الكبير على الجامع الصغير، مقدمة

الجامع الصغير، الفصل الأول في ذكر طبقات الفقهاء

والكتب، ص: ۲۷، إدارة القرآن کراتشی)

ترجمہ: ان غیر معتبر کتابوں (میں سے کسی مسئلہ کے

لینے) کا حکم یہ ہے کہ ان میں مذکور کوئی ایسا حکم جوان کتابوں سے

زیادہ معتبر تابوں میں موجود مسئلہ کے خلاف ہو، نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں اس وقت تک توقف کیا جائے گا، جب تک اس مسئلہ کا کسی اصلی شرعی میں داخل ہونا نہ معلوم ہو جائے، (یعنی: دوسری معتبر کتب سے اس کے صحیح ہونے کی تصدیق نہ ہو جائے۔)۔

صاحب روح البیان[ؒ] اور علامہ طحطاوی[ؒ] کے اپنے قول کا جائزہ اب صاحب تفسیر روح البیان[ؒ] کی اس بات:

”يقول الفقير: ”قد صَحَّ من العلماء تجويزُ الأَخْذِ بِالْحَدِيثِ الْضَعِيفِ فِي الْعَمَلِيَّاتِ، فَكُونُ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ لَا يَسْتَلزمُ تَرْكُ الْعَمَلِ بِمَضْمُونِهِ، وَقَدْ أَصَابَ الْقَهْشَانِيُّ فِي الْقَوْلِ بِاسْتِحْبَابِهِ“۔ ترجمہ: فقیر کہتا ہے کہ: ”(فضائل) اعمال کے باب میں ضعیف حدیث پر عمل کرنے کا جواز علماء سے صحت کے ساتھ ثابت ہے، پس مذکورہ حدیث کا غیر مرفع ہونا اُس کے مضمون پر عمل نہ کرنے کو سترزم نہیں۔ اور قہشانی“ اپنی احتجاب کی رائے میں درست ہیں“

اور علامہ طحطاوی[ؒ] کی اس بات
”وَبِمِثْلِهِ يُعَمَّلُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، ترجمہ: اور فضائل میں

اس طرح کی باتوں پر عمل کر لیا جاتا ہے۔

کامیابی جائزہ لے لینا چاہیے۔

اصول حدیث کی کتابوں میں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی موجود ہے کہ فضائل اعمال میں ان روایات کوئی لیا جاتا ہے، جو صحیح، حسن یا ہلکے درجے کی ضعیف ہوں، جو موضوع یا شدید ضعیف ہوں، ان پر عمل نہیں کیا جاتا۔

فضائل اعمال میں حدیث ضعیف پر عمل کرنے کی شرائط:

جب ہر علماء کے نزدیک، فضائل کے باب میں ہلکے درجے کی ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، البتہ اس جواز عمل کے لئے تین بنیادی شرائط ہیں، جن کو حافظ سخاویؒ نے ”القولُ البَدِيعُ“ میں ذکر کیا ہے، اور اگر ضعیف حدیث میں مذکورہ تین شرطوں میں سے کوئی شرط متفق ہو تو اس حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ موصوف فرماتے ہیں:

”سمعتُ شيخَنا ابنَ حجرَ أَيِّ العَسْقَلَانِيِّ“

المصريِّ مِرَارًاً - وَكَتَبَهُ لِي بِخَطْهِ - يَقُولُ : شَرْطُ الْعَمَلِ

بِالْحَدِيثِ الْمُضَعِيفِ ثَلَاثَةً :

الأَوَّلُ مُتَفَقُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُضَعِيفُ غَيْرُ

شَدِيدٍ، فَيَخْرُجُ مِنْ اَنْفَرَادٍ مِنَ الْكَذَابِينَ وَالْمُتَهَمِّمِينَ وَمِنْ

فَجُحْشَ غَلَطِهِ،

وَالثَّانِيُّ : أَنْ يَكُونَ مُنْدَرِ جَأَتْهُ أَصْلُ عَامٍ،

فیخُرُجَ مَا يُخْتَرُعُ بِحِيَثُ لَا يَكُونُ لَهُ أَصْلٌ أَصْلًا،
وَالشَّالِثُ: أَنَّ لَا يُفْتَنَدَ عِنْدَ الْعَمَلِ بِهِ ثَبَوْتُهُ لِثَلا
يُنْسَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْهُ.

قال: والأخيران عن ابن السلام وابن ذقيق
العيد، والأول نَقلَ العلائي الاتفاق عليه”。 (القول
البديع للسخاوي، خاتمة، ص: ٤٩٦، دار اليسير،
المدينة المنورة)

میں نے اپنے شیخ حافظ ابن حجر سے کئی دفعہ سنائے
- حافظ ابن حجر نے مجھے بذات خود یہ شرائط لکھ کر بھی دیں -
ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لئے تین شرائط ہیں:
پہلی شرط اتفاقی ہے کہ ضعف، شدید نہ ہو، لہذا اس
شرط سے وہ کہاں، مہمکن اور فاحش الغلط رواۃ نکل گئے، جو
نقلی روایت میں منفرد (تہا) ہوں۔

دوسری شرط یہ ہے کہ روایت دین کے اصل عام کے
تحت کا خل ہو، اس شرط سے وہ روایتیں نکل گئیں، جو گھڑی گئی
ہوں، آس طور پر کہ ان کی کوئی اصل نہ ہو۔

تیسرا شرط یہ ہے کہ حدیث پر عمل کے وقت ثبوت
حدیث کا اعتقاد نہ ہو، تاکہ آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی طرف کوئی
ایسی بات منسوب نہ ہو جائے، جو آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے نہ

فرمائی ہو۔

حافظ ابن حجر نے مزید فرمایا کہ آخری دو شرطیں، ابن عبد السلام اور ابن وقیع العید سے منقول ہیں، اور شرط اول پر علامہ علائیؒ نے علماء کا اتفاق نقل کیا ہے۔

ذکورہ تفصیل کی روشنی میں صاحب روح البیان کے قول کی حیثیت بالکلیہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ ذکورہ شرائط ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی ہیں، نہ کہ موضوع منقطع یا بے سند حدیث پر عمل کرنے کی۔ اور یہ بات پوری تحقیق سے ثابت ہے کہ یہ روایات موضوع یا بے سند ہیں نہ کہ ضعیف۔

”قوت القلوب“ کی عبارت سے متعلق وضاحت

البتہ! صاحب روح البیانؒ نے جو بات ”قوت القلوب“ کے حوالے سے ذکر کی ہے، اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ ہم نے ذکورہ کتاب میں اپنی بساط بھر کوشش کی کہ صاحب روح البیان کی نقل کردہ بات ہمیں مل جائے، لیکن ہم اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے، پوری کتاب میں مظاہن اور غیر مظاہن دونوں جگہ خوب تلاش کے باوجود ہماری مطلوبہ عبارت ہمیں نہ مل سکی، تاہم! صاحب قوت القلوب کے صنیع سے معلوم ہوتا ہے، کہ ان کی یہ بات بھی دیگر مباحثہ کی مثل بغیر سند کے ذکور ہو گی، بشرط موجودگی اگر ایسا ہی ہوا تو پھر اس عبارت کا جواب بھی ذکورہ تحریر میں آچکا ہے، اور اگر یہ بات سند موجود ہو تو جب وہ بات سامنے لائی جائے گی تو اس کا بھی جائزہ لے لیا جائے گا۔

اور علامہ طحطاوی رحمہ اللہ کے قول ”وبمثله یعمل فی فضائل الاعمال، ترجمہ: اور فضائل میں اس طرح کی باتوں پر عمل کر لیا جاتا ہے“ کے بارے میں علامہ عبد الفتاح ابوغدہ رحمہ اللہ تشریف ماتے ہیں:

ولاتغتر بقول الطحطاوي في حاشيته على
مراكي الفلاح آخر باب الأذان ”بعد ذكره هذا
الحديث عن كتاب الفردوس وكذا روى عن الخضر
عليه السلام، وبمثله يعمل في فضائل الاعمال“ فهو
كلام مردود بما قاله الحافظ و قال الحافظ ابن
تيمية في منهاج السنة: إن كتاب الفردوس فيه من
الأحاديث الموضوعة إلخ. (المصنوع في
معرفة الحديث الموضوع، ص: ١٧٠، قدیمی)

ترجمہ: ”اور تو علامہ طحطاوی“ کے اس قول سے دھوکہ
میں نہ پڑنا جو انہوں نے ”مراكي الفلاح“ کے حاشیے میں باب
الاذان کے آخر میں ذکر کی ہے کہ ”فضائل اعمال
میں اس جیسی روایات پر عمل کر لیا جاتا ہے“، پس ان کا یہ کلام رد
کر دیا جائے گا بجہ اس قول کے جو حافظ ابن تیمیہ کا ان کی کتاب
”منهاج السنة“ میں مذکور ہے، کہ کتاب الفردوس میں تو
موضوع احادیث بھری ہوئی ہیں ایخ“ -

یعنی: علامہ طحطاوی رحمہ اللہ کی مذکورہ بات کا درست ہونا اس وقت ممکن ہے،

جب احادیث متبدله ایسی ضعیف ہوں، جن میں تینوں شرائط موجود ہوں، جب کہ یہاں بقول شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ مذکورہ احادیث موضوع ہیں نہ کہ ضعیف۔

اس پوری بحث سے یہ نتیجہ لکھتا ہے کہ ان روایات پر عمل کرنے کی کوئی مکجاش نہیں ہے۔

علامہ ابن عابدین اور علامہ طحطاوی رحمہما اللہ کا دفاع

اور اس بحث سے علامہ ابن عابدین اور علامہ طحطاوی رحمہما اللہ پر کوئی زندگی

پڑتی،

اولاً تو اس بنا پر کہ علامہ ابن عابدین کی ذکر کردہ عبارت کو۔ یکجا جائے کہ اس میں ان کا اپنا کوئی بھی کلام نہیں ہے، پہلے انہوں نے علامہ قہستانی کا قول "استحباب نقل کیا ہے، اس کے بعد علامہ جراحی کا قول: "ولم يصيغ في المرفوع من كل هذَا شَيْءٌ" نقل کیا ہے، ان کے صنف سے تو یہ معلوم ہوتا کہ اس باب میں کوئی صحیح مرفوع حدیث منقول نہیں ہے۔ کیوں کہ ان کا استحباب والے قول کے بعد اس قول "ولم يصيغ في المرفوع من كل هذَا شَيْءٌ" کو ذکر کرنا اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

اور علامہ طحطاوی رحمہ اللہ کی ذکر کردہ عبارت کی بھی یہی صورت حال ہے، کہ انہوں نے قہستانی اور کتاب الفردوس سے نقل کیا ہے، البتہ آخر میں ان کا اپنا قول: "وبسم الله يُعمل في الفضائل" ہے، اس کی حیثیت علامہ عبد الفتاح ابو غدرہ رحمہ اللہ

کے قول سے واضح ہو جکی ہے۔

ہانیا اس وجہ سے کہ ان حضرات نے جو انتخاب کا قول نقل کیا ہے، وہ آج سے دو صدیاں قبل کیا تھا، عین ممکن ہے کہ اس دور میں بدھیوں کے ہاں اس مسئلہ میں ایسا غلوٹہ ہو، جیسا ہمارے اس موجودہ دور میں ہے، اس لیے انہوں نے انتخاب کا حکم لگایا اور بعض نے اسے ہی آگے نقل کر دیا، اور اگر اس دور میں بھی اس مسئلہ میں غلوٹہ ہوتا جیسا کہ آج انلہر من لشکس ہے تو یقیناً اس مسئلہ میں بھی دوسری بدعتات کی طرح بدعت کا حکم لگایا جاتا۔

مستحبات کو ان کے درجے سے بڑھادینے کا حکم
 اور اگر بالفرض اسے مستحب ہونا تسلیم بھی کر لیا جائے تو پھر بھی آج کے دور میں اس پر عملکرننا جائز نہیں، کیوں کہ فقہہ کا مسئلہ قاعدہ ہے کہ جب کسی مستحب کا کو اس کے درجے سے بڑھادیا جائے تو وہ کام منوع ہو جاتا ہے۔

اب اس موجودہ دور میں مذکورہ مسئلہ کے بارے میں غور کر لیا جائے کہ اس مسئلہ کو نہ صرف سب سعیت مقصودہ بلکہ اس میں نبی اکرم ﷺ کی خاص تعلیم سمجھی جاتی ہے۔ اور ایسا نہ کرنے والے کو بُری نظر سے دیکھا جاتا ہے، نہ کرنے والے کو ملامت اور عن طعن کی جاتی ہے، اسے حفیت کا مخالف قرار دیا جاتا ہے، بلکہ اس عمل کو اہل سنت والجماعت کی پہچان سمجھا جاتا ہے، حالاں کہ! اگر یہ عمل ایسا ہی اہم اور ضروری ہوتا تو جس طرح آذان جیسا عظیم الشان امر تو اتر اور قوی دلائل کے ساتھ کتب معتبرہ میں مذکور ہے، بالکل اسی طرح یہ عمل بھی مذکور ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ عمل بھی

اذان کے وقت کا ہی عمل ہے۔ لیکن اس کے برخلاف یہ عمل موضوع اور منقطع حدیث اور چند غیر معترکتب میں موجود ہے۔ لہذا اس عمل کو اس کے مرتبے سے اس طرح غلو کی حد تک بڑھادینا بھی اس عمل کے منوع ہونے کے لیے کافی ہے، ملاحظہ ہو:

قال ابن منیر: "فَيَهُ أَنَّ الْمَنْدُوبَاتِ قَدْ تَنْقَلِبُ
مَكْرُوهَاتٍ، إِذَا رَفِعْتُ عَنْ مَرْتَبِهَا..... إِلَخْ." (فتح

الباری، کتاب الصلاة، باب الانتفال والانصراف عن

اليمين: ۴۳۰ / ۲، قدیمی)

"ابن منیر" فرماتے ہیں: (اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے) کہ مندوبات (یعنی: محبات) کو جب ان کے مرتبے سے بلند کر دیا جائے تو وہ مکروہات کے حکم میں بدل جاتے ہیں۔

قال الطیبی: "وَفِيهِ أَنْ مَنْ أَصْرَرَ عَلَىْ أَمْرٍ
مَنْدُوبٍ وَجَعَلَهُ عَزْمًا وَلَمْ يَعْمَلْ بِالرَّحْصَةِ، فَقَدْ أَصَابَ
مِنَ الشَّيْطَانِ مِنَ الْإِضْلَالِ، فَكَيْفَ مَنْ أَصْرَرَ عَلَىْ بَدْعَةٍ
أَوْ مُنْكَرٍ". (شرح الطیبی، کتاب الصلاة، باب الدعا
فی التشهید، الفصل الأول، رقم الحدیث: ۹۴۶،

۳۷۴ / ۲، إدارة القرآن والعلوم، کراتشی)

طیبی فرماتے ہیں: (اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے) کہ جو شخص کسی امر مندوب پر اصرار کرے

(یعنی ان پر مسلسل اس طرح عمل کرے کہ وہ اس سے کبھی
چھوٹنے ہی نہ پائے) اور اس پر عمل کرنے پر (مسلسل) پر عزم
رہتا ہو، تو وہ شیطان سے اپنے حصے کی گمراہی وصول کرنے والا
ہے، لیکن (جب مندوبات پر اصرار کرنے والے کا یہ حال ہے
تو) بدعات یا مکرات پر (اسی طرح) اصرار کرنے والے کا کیا
حال ہو گا؟!“۔

(وكذا في مرقة المفاتيح، كتاب الصلاة، باب الدعا
في التشهد، الفصل الأول، رقم الحديث: ٩٤٦،
٣١٣، رشيدية)

(وكذا في التعليق الصبيح، كتاب الصلاة، باب الدعا
في التشهد، الفصل الأول، رقم الحديث: ٩٤٦،
٥٤٩، رشيدية)

(وكذا في السعایة، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة:
٢٦٣/٢، سهیل اکبدیمی)

علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ

اب آخر میں ہماری مختلفہ بحث جیسا ہی ایک سوال کا جواب ذکر کیا جاتا
ہے، جو اسی شخصیت کا جاری کردہ ہے، جو دیوبندیت اور بریلویت کے زمانے سے
پہلے کی ہے، اور وہ ہے علامہ عبدالحی لکھنؤی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت۔ ملاحظہ فرمائیں:

”این تقبیل را در بعض کتب فقه مستحب نوشہ است نہ واجب و نہ سنت، مثل کنز العباد و خزانۃ الروایات، و جامع الرموز و فتاویٰ صوفیہ وغیرہ، مگر در اکثر کتب معتبرہ مذکور اولہ نشان آن غیست، در آن کتب کہ در انہا این مسئلہ ذکر است غیر معتبر اند، چنانکہ جامع الرموز و فتاویٰ صوفیہ و کنز العباد وغیرہ، اینجہ کہ درین کتب رطب و یا بس بلا تفاسیح مجمع است، تفصیل آن در رسالہ من ”النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير“ موجود است، درین باب فقهاء نقل میکند آنہا تحقیق محدثین صحیح ییستند طبع“۔ (مجموعۃ الفتاویٰ، کتاب الکربلہ ۳۲۵/۳، رشیدیۃ)

اس عبارت کا مفہوم یہ ہے: ”اس اگوٹھے چونے والے مسئلہ کو فقه کی بعض کتابوں میں مستحب کہا گیا ہے، واجب یا سنت نہیں، مثلًا: کنز العباد، خزانۃ الروایات، جامع الرموز اور فتاویٰ صوفیہ وغیرہ (میں یہ مسئلہ ذکر ہے)، مگر اکثر معتبر کتب فقه میں ایسا کوئی مسئلہ ذکر نہیں ہے، اور جن کتب میں یہ مسئلہ موجود ہے، وہ کتب معتبر نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کتابوں میں ہر رطب و یا بس کو اس بات کی تصریح کیے بغیر“ کوں سی بات صحیح ہے اور کون سی نہیں؟، جمع کر دیا گیا ہے، اس بات کی پوری تفصیل میرے درسالے ”النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير“ میں موجود ہے، اس اگوٹھا چونے والے مسئلہ میں

(ان کتابوں کے مصنفین) فقہاء نے جو کچھ کہا ہے، محدثین کرام نے اسے صحیح قرائیں دیا۔

مذکورہ بالتفصیل سے متعلقہ مسئلہ پوری طرح صحیح ہو کر سامنے آچکا ہے، اللہ جل جلالہ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں جملہ بدعاات و مکرات سے محفوظ رکھتے ہوئے اتباع نبوبت ﷺ کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہم سب کا خاتمة بالظیر کرتے ہوئے ہمارا حشراس، جماعت قدیسیہ کے ساتھ فرمائے، جس کو دنیا میں ہی "رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ" کا پروانہ لیا تھا، میری مراد صحابہ کرام ﷺ ہیں۔

بدعت کی خلمت

اللہ رب العزت نے ابد الہادی خوشیوں حاصل کرنے کے لیے انسانوں کو ایک کامل، اکمل وادوم دین و شریعت عطا فرمائی ہے، جس کے بارے میں جناب رسول اللہ ﷺ وفات سے اکیاسی روز قبل، ۹ ذوالحجہ، جمعہ کے روز، عصر کے بعد اللہ جل شانہ نے یہ اعلان کر دیا: ﴿الیوم أکملت لكم دینکم واتعمت عليکم نعمتی ورضيت لكم الإسلام دینا﴾۔ (المائدۃ:)

اس اعلانِ خداوندی کا منشاء یہی ہے کہ اب قیامت تک اس دین میں کسی قسم کی ترمیم و تثینخ اور حذف و اضافہ کی نہ ہی ضرورت ہے اور نہ ہی گنجائش، اس سے ہٹ کر صرف اور صرف خلافت و گم را ہی ہے، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امیر المؤمنین، خلیفہ راشد، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا:

”إِنَّا كُنَّا أَذْلَّ قَوْمًا، فَأَعْزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ،“

فمهما نطلب العز بغير م الأعزنا الله به، أذلنا

الله”。(المستدرک على الصحيحین، کتاب الإیمان،

قصة خروج عمر رضی اللہ عنہ إلى الشام، رقم

الحادیث: ٢٠٧، ٦٢١، دار المعرفة م بیروت)

ترجمہ: ”بے شک ہم قوم کے ذیل ترین لوگ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام (قبول کرنے) کی وجہ سے عزت دی، (پس اچھی طرح سن لو کہ) جب کبھی بھی ہم نے اس چیز کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے عزت حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کے ذریعے ہے ہم کو عزت دی تھی، تو (یاد رکھنا کہ اللہ ہم کو ذیل کر کے رکھو گا)۔“

اسی طرح پہلی صدی کے مجدد امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ

کو جب خلیفہ بنیا گیا تو آپ منبر پر تشریف لائے اور لوگوں سے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ نَبِيِّكُمْ نَبِيًّا، وَلَا بَعْدَ

كِتَابَكُمْ كِتَابًا، وَلَا بَعْدَ سُنْتَكُمْ سُنْنَةً، وَلَا بَعْدَ أَمْرَكُمْ

أَمْرًا، أَلَا وَإِنَّ الْحَلَالَ مَا أَحْلَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ

نَبِيِّهِ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَلَا وَإِنَّ الْحَرَامَ مَا حَرَمَ اللَّهُ

فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَلَا وَإِنِّي

لَسْتُ بِمُتَدْعٍ وَلَكُنِّي مُتَبِّعٌ“۔ (موسوعة الدفاع عن

رسول اللہ ﷺ، رسالتہ: ”حکم الحتفال بالمولد والرد

علی من اجازہ: (۱۰۸۷)

ترجمہ: اما بعد! تمہارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، اور خدا تعالیٰ نے آپ ﷺ پر جو کامل کتاب نازل کی ہے، اس کے بعد کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے، خبردار! خدا نے بزرگ و برتر نے جو چیز حلال کر دی ہے وہ قیامت تک حلال ہی رہے گی، خبردار! جو چیز حرام کر دی ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہی رہے گی، آگاہ رہو! میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں تو صرف احکام الہی کو نافذ کرنے والا ہوں، اچھی طرح سن لو! کہ میں بدعتی نہیں ہوں، بلکہ میں تو تبعیع الاستفت ہوں۔“

اس بیان کو سامنے رکھتے سے ہمارے لیے یہی راہ متعین ہوتی ہے کہ ہمیں ولادت سے لے کر وفات تک، خوشی سے لے کر غمہ تک، زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبہ کی اصلاح کے لیے ہمیں صرف اور صرف سنت رسول ﷺ کی طرف ہی متوجہ ہونا پڑے گا، جو ہر طرح سے محفوظ ہے، اس کے ہوتے ہوئے نہ تو کسی اور طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی گنجائش۔

حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا:

”فَعَلِيكُمْ بِسْتَيْ وَسْنَةِ الْخَلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ
عَصَمُوا عَلَيْهَا بِالنَّوْاجِدِ وَإِيَّاكُمْ وَمَحْدُثَاتِ الْأَمْرِ، فَلَمَّا

کل محدثة بدعة”。(سنن الترمذی، کتاب العلم، ما

جاء فی الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم

الحادیث: ۲۶۷۶، ۴۴۵، دار احیاء التراث العربي)

فرمایا: تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو معمول بناو اور اپنی ڈاڑھوں کے ساتھ مفبوضی سے اس کو پڑو، تم نئی نئی باتوں سے پرہیز کرو، کیوں کہ ہرنی بات بدعت ہے۔

آپ ﷺ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت اسی جماعت ہے جنہوں نے آپ ﷺ کے ایک ایک فعل کو حفظ کیا، اپنایا اور چار سو پھیلایا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج خود ساختہ بدعتات کو علی العلان کیا جاتا ہے اور اسلام کے نام پر ہی ان کا پرچار کر جاتا ہے، حالاں کہ اس جماعت قدیسه میں ان کا نام و نشان تک نہیں ملتا، باوجود کمال عشق و محبت کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کا مولو کو نہ کیا، اور نہ ہی ان کے بعد تابعین نے، اور نہ ہی تبع تابعین نے، فو تکمیل ان کی بھی ہوتی تھیں، جنمازے ان کے بھی اٹھتے تھے، قبریں ان کے ہاں بھی بُنی تھیں، مگر ان کے ایسے سب کام بدعتات سے صاف اور خالی ہوتے تھے۔

یہ بات بالکل سمجھ سے بالاتر ہے، کہ اس وقت یہ کام ان کو نہ سوچنے اور آج ہم میں ان کا ضد و رتو اتر تک ہو رہا ہے، حالاں کہ عشق و محبت ان میں زیادہ تھی، علم و تقویٰ ان میں زیادہ تھا، خوف و خدا اور فکر و عبادت ان میں کامل و اکمل تھی، پھر کیا وجہ ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ اس وقت ان امور کو دین بنانا نصیب نہ ہوا اور آج یہ ایک انقلاب دین، شعار دین اور علامات اہل سنت بن گئے؟؟ اللہ! ذرا خشنڈے دل سے اس پر

غور کیا جائے۔

حضرت خدیفہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا:

”کل عبادۃ میتعباها اصحاب رسول اللہ ﷺ فلا

تعبدوها۔“ (الاعتصام، باب فی الفرق البدع والمصالح

الرسلة، ۴۱۱، دار المعرفة)

ہر وہ کام جس کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نہیں

کیا سوتھی بھی اس کو مت کرو۔

اگر ان طریقوں میں خیر و برکت ہوتی تو حضرات خلفاء اربعة اشیدین، عشرہ
مبشرہ، اصحاب بدرا، اصحاب بیعت رضوان اور پوری جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم
اجمعین اس سے چونے والے نہیں تھے۔

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدد اپنے ایک بیان میں اپنے والد
صاحب رحمہ کی نسبت سے ایک کہاوت بیان کرتے ہیں:

”میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ ہندی زبان کی
ایک مثل اور کہاوت سنایا کرتے تھے کہ ان کے یہاں یہ کہاوت مشہور ہے کہ:
(بنی سے سیانا سوباولا)

یعنی: اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں تجارت میں بنی سے زیادہ سیانا اور
ہوشیار ہوں، ارواس سے زیادہ تجارت جانتا ہوں، تو وہ باوقا اور پاگل ہے، اس لیے
کہ حقیقت میں تجارت کے اندر کوئی شخص بنی سے زیادہ سیانا نہیں ہو سکتا، یہ کہاوت
سنانے کے بعد حضرت والد صاحب فرماتے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں صحابہ کرام

سے زیادہ حضور اکرم ﷺ کا عاشق ہوں اور صحابہ کرام سے زیادہ محبت رکھنے والا ہوں، وہ حقیقت میں پاگل ہے، بے وقوف اور احمق ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرامؓ سے بڑا عاشق اور محبت کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ (ماہنامہ البلاغ، ربیع الاول ۱۴۳۵ھ، ص: ۷) تفسیر ابن کثیر میں ہے:

”وَأَمَّا أَهْلُ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَيَقُولُونَ فِي كُلِّ
فَعْلٍ وَقَوْلٍ لَمْ يُثْبِتْ عَنِ الصَّحَابَةِ هُوَ بَدْعَةٌ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ
خَيْرًا سَقَوْنَا إِلَيْهِ إِنْهُمْ لَمْ يَتَرَكُوا خَصْلَةً مِنْ خَصَالِ خَيْرٍ
إِلَّا وَقَدْ بَادَرُوا إِلَيْهَا۔“

”اہل سنت والجماعت یہ فرماتے ہیں کہ جو فعل اور
قول جتاب رسول ﷺ کے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے
ثابت نہ ہو تو اس کا کرنا بدعت ہے، کیوں کہ اگر وہ کام اچھا ہوتا
تو ضرور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہم سے (بہت) پہلے
اس کام کو کرتے، اس لیے کہ انہوں نے نیکی کے کسی پہلو اور کسی
نیک اور عمده خصلت کو تکمیل نہیں چھوڑا، بلکہ وہ ہر کام میں
سبقت لے گئے۔“

الغرض! اس کے خلاف کم راہی اور بدعت ہے، آخر دلیل تباہی بھی (العاذ نا
اللہ منہ) آج جو دلائل اہل بدعت پیش کرتے ہیں، یعنیہا یہ دلائل اُس وقت بھی موجود
تھے، مگر نہ تو ان حضرات کو ان دلائل سے بدعت کا جواز معلوم ہوا اور نہ ہی ان میں اُن
کے نزدیک کوئی آنکھ کو بھانے والی حکمت و عبرت آشکارا ہوئی، لیکن آج اُن ہی دلائل

کے ذریعے بدعت کا جواز بطور ثبوت نکل رہا ہے !! اور اس وقت نہ نکل سکا !! ؟؟

اگر آج یہ بدعاات جائز اور کاری ثواب بن گئی ہیں تو اس کا یہی مطلب نکلے گا کہ ہم علم و تقویٰ میں، دیانت اور ہدایت میں ان حضرات سے سبقت لے گئے ہیں کہ یہ عبادات اور طاعات ان کو باوجود عمدہ کے نہیں سمجھیں اور ہمیں روز روشن کی طرح واضح نظر آتی ہیں۔ (العیاذ بالله)

صرف یہی نہیں، بلکہ اہل بدعت اپنی من گھڑت بدعاات کے اپنے حق میں من پسند ولائل بھی پیش کرتے ہیں، جس کے بارے میں علامہ شاطبیؒ لکھتے ہیں:

والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتداعاً من ينسب إلى
ملة وهو يستشهد على بدعة بدلليل شرعاً، فينزله على
ما وافق عقله وشهوته". (الاعتراض، باب في ذم البدع
وسوء منقلب أصحابها: ١٠٩/١، دار المعرفة)

اس کے ساتھ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے (کہ وہ ہمیں بدعاات کی ظلمت سے دور رکھتے ہوئے سنتوں کے انوار کے سامنے میں تادم مرگ رکھے) پہلا باب ختم کرتا ہوں۔



بابِ دوم

انگوٹھے چونے سے متعلق
اکابر علماء دیوبند کے فتاویٰ جات

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند

اذان میں بوقت شہادتین انگوٹھا چونا

سوال: اذان میں بوقت شہادتین انگوٹھا چونا اور آنکھوں سے لگانا اور

قرۃ عینی بلک یا رسول اللہ "پڑھنا کیسا ہے؟"

جواب: علامہ شامیؒ نے کنز العباد سے نقل کیا ہے کہ شہادتین کے وقت اذان میں ایسا کرنا مستحب ہے۔ پھر جاتیؒ سے نقل کیا ہے۔ ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيء، ورنّيin صحّيّ هو مرفوع حديث میں میں سے کچھ۔ اس سے معلوم ہوا کہ سنت سمجھ کر فعل کرنا صحیح نہیں ہے، چوں کہ اس زمانہ میں اکثر لوگ اس کو سنت سمجھ کر کرتے ہیں اور تارک کو ملام و مطعون کرتے ہیں، اس لیے اس کو علمائے محققین نے متروک کر دیا ہے، فقط

(فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، باب الاذان، اذان میں بوقت شہادتین انگوٹھا چونا:

(۱۷، ۲۷، ۳۷، دہراشت).....

کفایت المفتی

حضرور اکرم ﷺ کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چونا

سوال: جناب محمد رسول ﷺ کے نام مبارک پر اکثر ویشر عوام الناس اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چوتے اور آنکھوں سے لگاتے ہیں، بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بجائے انگلیاں چونے کے درود شریف پڑھنا افضل ہے، آیا ان دونوں صورتوں میں کون سی صورت افضل ہے اور انگلیاں چونا کیا ہے؟ کسی کتاب سے کچھ سند ہے یا یوں ہی رسم نکال لی ہے؟

جواب: انگوٹھے چونے اور آنکھوں سے لگانے کی کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، اس لیے اس کو شرعی حکم سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، بعض لوگ اس کو بطور عمل کے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس عمل سے آنکھیں دکھنے سے محفوظ رہتی ہیں تو اس نیت سے کرنا مباح ہے، مگر نہ کرنے والے پر کوئی مواخذہ نہیں اور الزام بھی نہیں۔

سوال: اذان کے درمیان جب موذن "أشهد أن محمداً رسول الله" کہتا ہے تو نام مبارک محمد پر سامعین اپنے دونوں ہاتھوں کے ابہام کو چوم کر آنکھوں پر رکھتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟

جواب: آخر فرست ﷺ کا نام ناہی سننے پر ابہام کو چونا اور آنکھوں سے لگانا سنت نہیں ہے، حضور ﷺ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے

عمل درآمد ہوا، ہاں! منفرد دوں دلیلی سے ایک روایت اس کے متعلق نقل کی گئی ہے، وہ ضعیف ہے، بعض بزرگوں نے اس عمل کو آنکھیں نہ کھنے کے لیے مؤثر بتایا ہے، تو اگر کوئی شخص اس کو سنت نہ سمجھے اور آنکھوں کو نہ کھنے کے لیے بطور ایک علاج کے کرتے تو اس کے لیے فی نفسہ یہ عمل مباح ہو گا، مگر لوگ اس کو شرعی چیز اور سنت سمجھ کر کرتے ہیں، اس کو ترک کر دینا ہی بہتر ہے، تاکہ لوگ التباس میں جتلانہ ہوں۔

سوال: بے شک حدیث صدقیق اکبر رضی اللہ عنہ موضوع ہے، لیکن شامی نے لکھا ہے کہ تقبیل ظفر ابہا میں عند استماع اسم صلی اللہ علیہ وسلم عند الاذان جائز ہے۔

جواب: شامی نے اس مسئلے کو قہستانی سے اور قہستانی نے کنز العباد سے نقل کیا ہے، نیز شامی نے قتاوی صوفیہ کا حوالہ دیا ہے، کنز العباد اور قتاوی صوفیہ دونوں قابل فتوی دینے کے نہیں ہیں، اور جب کہ حدیث کانا قابل استدلال ہونا ثابت ہے تو پھر اس کو سنت یا مستحب سمجھنا بے دلیل ہے اور اس کے تارک کو ملامت یا طعن کرنا نامموم۔ زیادہ سے زیادہ اس کو بطور علاج رمد کے ایک عمل سمجھ کر کوئی کر لے تو مثل دیگر اعمال کے مباح ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت ثابت نہیں۔ واللہ اعلم

سوال: پنجابی زبان میں ایک کتاب ہے، جس کا نام ”پکی روٹی کلاں“ ہے، اس میں تقبیل ابہا میں وقت اذان نزدیک سننے ”أشهد أن محمدا رسول الله“ کے متعلق حدیث لکھی ہے کہ:

”غیر خدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی شہادت

دے نونہ دوئیں اگوٹھیاں دے، آواکھیں تے رکھدا، اے
مجداللہ تے پڑھدا "قرۃ عینی بلک یا رسول اللہ" حق تعالیٰ
گناہ اس دے بخشنیدا ہے، اوسدیاں اکھیں کدی دردنا کر سن۔
تے پیغمبر خدا ﷺ نے فرمایا: لے وڑساں اسنون طرف بہشت
دے۔ جناب یہ تحریر فرمائیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا موضوع؟
اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟

جواب: تقبیلہ ابھائیں کا کوئی پختہ ثبوت نہیں، اس لیے اس کو موبہج
ثواب سمجھ کر رکنابے ثبوت بات ہے، البتہ بعض لوگ اس کو بیماری چشم سے محفوظ رہنے
کا عمل سمجھ کرتے ہیں، تو اس صورت میں مثل دیگر عملیات و توعیزات کے عمل بھی
سمباہ ہو گا، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تارک پر کوئی طعن یا ملامت نہ کی جائے،
جو اس عمل کو کرے، کرے۔ جونہ کرے، نہ کرے۔
(کفایت الحقیقتی، کتاب البدعات والرسومات، اذان کے وقت اگوٹھے چونے کا
پیمان: ۲۱۱/۲، ۳۱۸، ادارۃ الفاروق)

امداد الاحکام

آنحضرت ﷺ کا نام سن کر اگوٹھے چونا بدععت ہے

سوال: حضرت ﷺ کے نام مبارک پر دونوں ہاتھوں کے اگوٹھے

کے ساتھ منہ سے بوسہ لے کر دونوں آنکھوں پر لگاتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر ناجائز ہے تو کیسا گناہ ہے، اور کس کتاب میں ہے؟

جواب: آنحضرت ﷺ کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چونا بدعت ہے، کیوں کہ اکثر لوگ اس کو ثواب نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ موقوف ہے روایت پر، اور روایت اس بارے میں کوئی ثابت نہیں،

کما قال السخاوي في المقاصد الحسنة: ولا يصح في المرفوع من كل هذا شيء. اور فضائل اعمال میں ضعیف حدیث قبول ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں ثواب سمجھے بغیر عمل کرے، بشرطیکہ ضعیف شدید نہ ہو اور وہ عمل کسی اصل شرعی کے تحت میں داخل ہو،

کما صرخ به في الدر المختار (ج: ۱، ص:

۱۳۲) فائدة: شرط العمل بالحديث الضعيف عدم

شدة ضعفه، وأن يدخل تحت أصل عام، وأن لا يعتقد سنتيه ذلك الحديث، وقال الشامي، أي: سنية العمل به. اور آج کل لوگ ثواب سمجھنے کے علاوہ تارک پر ملامت کرتے ہیں، اس لیے اس فعل سے روکا جائے گا،

وما يرى في بعض كتب الفقهة من التحرير

على فعله، فمبني على ظنهم أن ضعفه يسير، وما ذكر عن بعض المشائخ فعل طريق الرقة من رمد العين.

نقط

(امداد الاحکام، کتاب السنۃ والبدعۃ، آنحضرت ﷺ کا نام سن کر اگوٹھے چونا بدعت ہے، ۱۸۸۱ء، ۱۸۹۱ء، مکتبہ دارالعلوم کراچی)

فتاویٰ محمودیہ

اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کر اگوٹھے چونا سوال: اذان میں حضور اکرم ﷺ کا اسم مبارک سن کر اگوٹھے چونا کیسا ہے اور جو لوگ اگوٹھے چونے والی حدیث پیش کرتے ہیں، کیا وہ موضوع (گھڑی ہوئی) ہے اور موضوع حدیث سے کیا مراد ہے؟

اجواب حامد اور مصلیاً: اذان کا جواب دینا سنتِ مؤکدہ واجب کے قریب ہے۔ اذان میں اگوٹھے چونا کسی صحیح مرفاع حدیث سے ثابت نہیں ہے، کتاب الفردوس میں وہ روایت موجود ہے، لیکن اس کتاب کے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے لکھا ہے کہ اس میں موضوع روایات بہت ہیں۔ موضوع روایت وہ ہے جو حضور اکرم ﷺ نے فرمائی ہو، بلکہ کسی اور نے جھوٹ بات حضور اکرم ﷺ کی طرف منسوب کر دی ہو۔ کنز العباد اور فتاویٰ صوفیہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن علامہ شاہیؒ نے رد المحتار میں لکھا ہے کہ فتاویٰ صوفیہ غیر معترکتاب ہے، اس پر فتویٰ ذینما درست نہیں ہے، علامہ ابن عابدینؒ نے اس روایت پر بحث

کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”وذکر الجراحی وأطال، ثم قال: ولیم يصح

فی المرفوع من کل هذَا شَيْءٍ اه“ (شامی: ۲۶۷/۱)

ترجمہ: جراحی رحمہ اللہ نے اس مسئلہ میں طویل بحث کے بعد لکھا ہے کہ اس بارے میں کوئی مرفوع حدیث موجود نہیں، جس سے انگوٹھا چونے کو مسنون یا مستحب قرار دیا جائے۔
فَظَّلَ اللَّهُ بِجَانَةِ تَعَالَى عِلْمٌ۔ حَرَرَهُ الْعَبْدُ مُحَمَّدُ غَفَرْلَهُ۔

اذان میں انگوٹھے چومنا

سوال: اذان میں آنحضرت ﷺ کے نام پر انگوٹھا چومنا مولانا عبدالغفور صاحب نے ”کنز العباد“ سے ثابت کیا ہے کہ پہلے مرتبہ حضرت کے نام پر ”صلی اللہ علیہ علیک یا رسول اللہ“ کہے، یہ صیغہ حاضر کے ہیں تو کیا آنحضرت ﷺ کو حاضر تصور کریں؟ بہاہ شریعت میں بحوالہ ردا لکھا ہے کہ جب موذن ”أشهد أن محمدا رسول الله“ کہے تو سننے والا درود شریف پڑھے اور مستحب ہے کہ انگوٹھوں کو بوسدے کر آنکھوں سے لگائے اور کہے ”قرۃ عینی بک یا رسول الله، اللهم متعنی بالسمع والبصر“ یہ قول مفتی یہ ہے بحوالہ ردا لکھا نے کچھ تنقید کی ہے؟

الجواب حامد أو مصلياً

اس حدیث کو بحوالہ ”فردوس دیلمی“، نقل کر کے تذكرة الموضوعات، ج ۳۲: میں لکھا ہے: ”لا يصح“ اور ابوالعباس متصوف کی سند لکھا ہے: ”فیہ مجاهیل“،

اس کے بعد بعض سلف سے نقل کیا ہے کہ یہ آشوب چشم کا مجرب علاج ہے۔ پس اس کو سنت ہدیٰ سمجھ کر بطور عبادت کرتا ہے اصل، بلکہ بدعت ہے، اس لیے ترک لازم ہے، ہاں اگر کوئی آشوب چشم کے علاج کی غرض سے اس طرح کرے، جس سے دوسروں کو سنت و ثواب ہونے کا اندریشہ نہ ہو تو درست ہے۔ کنز العمال میں ہر طرح کی روایات ہیں، موضوعات بھی ہیں، روایتیں اس کو ”کنز العباد“ کے حوالے سے نقل کیا ہے، جس کا درجہ کنز العمال سے بھی کم تراو ضعیف ہے، اس میں ایسی روایات ضعیفہ موضوع اور مسائل غریبیہ ہیں، جن پر فتویٰ ہرگز نہیں دیا جاسکتا ہے۔ النافع الکبیر میں اس کتاب کا حال مذکور ہے، فردوں دلیلیٰ کے متعلق ”بستان الحمد شین“، ص: ۶۱، ”صنف کا حال نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ: ”اما در اتقان معرفت و علم او تصور یست، و رسمیم و صحیح احادیث تمیز نہی کند، و سند او دریں کتاب فردوں موضوعات و اہمیات تودہ تودہ مندرج اہ“۔ قہستانی اور قاویٰ صوفیہ سے بھی استحباب نقل کیا ہے، خود علامہ شاہی فرماتے ہیں:

”القہستانی کھجارت سیل و حاطب لیل اہ۔“

ماعلیٰ قاریٰ نے لکھا ہے:

”لقد صدق عصام الدین فی حق القہستانی
أنه لم يكن من تلاميذه شیخ الإسلام الھروی، لا من
أعالیّهم ولا من أدانیّهم، وإنما كان دلال الكتب فی
زمانه، ولا كان يعرف بالفقہ وغیره بین أقرانه، ویؤیده
أنه یجمع فی شرحه هذا بین الغث والسمین
والصحيح والضعیف من غير تحقیق وتدقیق، فهو“

کھاطب اللیل الجامع بین الرطب والیابس فی اللیل
اہ۔ فتاویٰ صوفیہ کے متعلق عدۃ الرعاۃ میں برکت سے
نقل کیا ہے: ”إِنَّهَا لَيْسَ مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ، فَلَا يَجُوزُ
الْعَمَلُ بِمَا فِيهَا إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَوْافِقَتَهَا لِلأَصْوَلِ۔“

نیز علامہ شامیؒ نے اس کو بلا تقید نہیں چھوڑا، ان کتب کا حوالہ نہ دینا بھی تقید
ہے، پھر آخر میں ہے: ”لَمْ يَصُحْ فِي الْمَرْفُوعِ مِنْ كُلِّ هَذَا شَيْءٍ أَهُ“۔ فقط واللہ
سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ (فتاویٰ محمودیہ، باب البدعات والرسوم: ۱۲۱، ۱۲۲، ۳/۱۲۱)۔
(الفاروق)

فتاویٰ مفتی محمود

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل کے بارہ میں
حضور ﷺ کے نام مبارک پر الکلیوں کا چونا جائز ہے یا ناجائز ہے؟

جواب: بعض ضعیف کتب میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ لیکن
چوں کہ خیر القرون میں معمول نہیں تھا، اس لیے اس کو ترک کر دیا جاوے۔ (فتاویٰ
مفتی محمود، کتاب البجاۃ، اسم محمد ﷺ پر اگوٹھے چونا، ۱۵۵/۳، جمعیۃ کپوزگن ستر،
لاہور)

فتاویٰ رحیمیہ

آنحضرت ﷺ کا اسم مبارک سن کر اگوٹھے چونا کیسا ہے؟

سوال: اس کے ہمراہ احمد آباد سے شائع ہونے والے ماہنامے طیبہ (گجراتی) کے اگست ۱۹۶۵ء کے شمارے کے ایک فتوے کی نقل ارسالی خدمت ہے، جس میں مرقوم ہے کہ بہت سے علماء ایسے ہیں، جو فقہ حنفی پر عامل نہیں ہیں اور اس کے باوجود خود کو حنفی جلتاتے ہیں، اور ناواقف مسلمانوں کو غلط راہ پر لے جاتے ہیں، یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کا نام مبارک لیتے وقت خصوصاً اذان کے وقت اگوٹھے چونا بدععت ہے، جو لوگ رحمۃ اللعلیین ﷺ کی عزت کرتے ہیں، آپ ﷺ کی شان عظمت کو بیان کرتے ہیں، انہیں یہ علماء بدعتی کہتے ہیں، اب سوال یہ ہے کہ اگوٹھے چونے کے ثبوت میں جو حوالے دیئے گئے ہیں، وہ ٹھیک ہیں یا نہیں؟ اور اگوٹھے چونا سنت ٹھہرایا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تفصیل سے جواب عنایت کریں۔

جواب: آنحضرت ﷺ کا نام مبارک پڑھ کر، سن کر درود شریف پڑھنا صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور اس میں سرور دو جہان ﷺ کی صحیح تعظیم بھی ہے، ایک مجلس میں کئی مرتبہ آپ ﷺ کا نام مبارک پڑھا جائے، یاسنا جائے، تو اس کے لیے فتویٰ یہ ہے کہ ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا مستحب اور کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے (در مختار و شامی، ج: ا، ص: ۳۸۱، مطلب فی وجوب الصلاة علیہ کلمہ ذکر علیہ الصلاۃ والسلام)

مگر اس وقت انگوٹھے چونے کے متعلق کوئی صحیح یا ضعیف حدیث وارد نہیں ہے۔ لہذا نامِ مبارک لے کر یا سن کر انگوٹھے چونے کے متعلق کوئی صحیح یا ضعیف حدیث وارد نہیں ہے، لہذا نامِ مبارک لے کر یا سن کر انگوٹھے چونے کو حدیث سے ثابت شدہ مانتا اور مسنون سمجھنا، اور اس کو آپ ﷺ کی تعظیم ٹھہرانا غلط اور بے دلیل ہے، یہ بدعتیوں کی ایجاد ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔

آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے:

”من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“.

(بخاری شریف، ب: ۱۰، ج: ۱، ص: ۳۷۱)

باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود

(باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور،

مسلم شریف، ج: ۲۲، ص: ۷۷)

(یعنی: جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات نکالی کہ جو

دین میں داخل نہیں ہے تو وہ ناقابل تسلیم ہے)

نیز! آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے:

”من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد“.

(صحیح مسلم، ج: ۲، ص: ۷۷، أيضاً)

یعنی: ”جو شخص ایسا کام کرے، جس کے لیے ہمارا حکم

نہ ہو (یعنی: جو ہمارے طریقہ پر نہ ہو) وہ رو ہے۔

نیز! اذان و اقامۃ کے وقت آنحضرت ﷺ کا نامِ مبارک سن کر انگوٹھے

کے ناخن چومنا اور آنکھوں پر رکھنا، اس فعل کو سنت سمجھنا اور حدیث نبوی ﷺ سے ثابت تصور کرنا اور اس کو سرورِ کائنات ﷺ کی صحیح تعظیم و عزت مُطہر الیانا اور حنفی ہونے کی علامت بتانا اور نہ چومنے والے کو لعن طعن کرنا اور ملامت کے قابل سمجھنا، یہ بھی غلط ہے۔ اور دین میں تحریف (ردوبدل) کرنے کی مانند ہے۔ اتنی بات درست ہے کہ بعض علماء نے کچھ ایسی حدیثوں کی بنا پر جن کو محققین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ جائز اور بعض نے اس کو مستحب قرار دیا ہے کہ اذان میں جب نامِ نافع آئے تو آنکھوں کے ناخن آنکھوں پر رکھے، مگر یہ بات بھی آنکھ کی بیماری کے عمل اور علاج کے طور پر ہے، عبادت اور سنت مقصودہ اور آنحضرت ﷺ کی مخصوص تعظیم اور عظمت کے لیے نہیں ہے۔ (مقاصد حسنہ وغیرہ)

(مولانا احمد رضا خان کا فتویٰ بھی یہی بتلا رہا ہے، جو آگے تحریر ہے)

لیکن اب صورت حال یہ ہے کہ لوگ اس کو آپ ﷺ کی خاص تعظیم اور دین سنت مقصودہ سمجھتے ہیں اور نہ کرنے والے کو لعن و طعن کرتے ہیں اور حفیت کے خلاف اور اہل سنت سے خارج تصور کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں غلط ہیں اور ان کی بنا پر یہی ضروری ہے کہ ایسا نہ کیا جائے اور اس عمل کو ترک کر دیا جائے، فتنہ کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ مستحب کو جب اپنے مرتبہ سے بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔

واستنبط منه أن المندوب ينقلب مكروها إذا

خيف أن يرفع عن مرتبته۔ (مجمع البخار، ج: ۲، ص:

فتح الباری شرح صحیح البخاری میں ہے کہ

قال ابن المنیر أن المندوبات قد تقلب

مکروهات إذا رفعت عن مرتبتها لأن التیامن مستحب

في كل شيء من أمور العبادة لكن لما خشي ابن

مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراحته.

لیعنی: مستحبات مکروہات بن جاتے ہیں، جب کہ انہیں

اپنے اصل مرتبہ سے بڑھادیا جاتا ہے (مثال ملاحظہ ہو) ہر یتیکی

کے کام میں وائے جانب سے ابتداء کرنا مستحب ہے، لیکن

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اس

کا بے حد اہتمام دیکھا تو اس کو مکروہ فرمادیا، کیوں کہ ان کو خطرہ

ہوا کہ لوگ اس مستحب کو واجب سمجھنے لگیں گے (فتح الباری،

ج: ۲، ص: ۲۸۱)

بعض فقهاء نے اپنے زمانے میں ایام بیض (ہر ماہ کی تیرھویں، چودھویں،

پندرھویں) کے روزوں کے متعلق کراحت کا فتویٰ دیا، حالانکہ ایام بیض کے روزے

مستحب ہیں اور ان کی فضیلت میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔

وَكُلْ مِبَاح أَدِي إِلَى هَذَا، فَهُوَ مُكْرُوهٌ حَتَّى

افتنی بعض الفقهاء حين شاع صوم أيام البيض في زمانه

بـكراحته لـشـلا يـؤـدي إـلـى اعتقادـالـواجـبـ معـأـنـصـومـ

الـبيـضـ مـسـتـحـبـةـ وـرـدـ فـيـهـ أـخـبـارـ كـثـيرـةـ فـمـاـ ظـنـكـ بـالـمـبـاحـ

وما ظنك بالمکروه۔ (مجالس الابرار، ص: ۵۰)

(ص: ۲۹۹)

اس درجہ کی حدیث اگوٹھے چونے کے متعلق کوئی پیش نہیں کر سکتا۔

اذان کے وقت اگوٹھے چونے کے متعلق جو احادیث اور روایات آئی ہیں، وہ مند الفردوس دلیلی کے حوالے سے موضوعات کبیر اور تذكرة الموضوعات اور الفوائد المجموعۃ فی الأحادیث الموضوعة وغيره میں منقول ہیں۔

علامہ سخاویؒ کے حوالے سے ملا علی قاریؒ مذکورہ روایات کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ

”لا يصح“ (موضوعات کبیر، ص: ۵۷) یعنی روایت

صحیح نہیں ہے۔

اور علامہ محمد طاہرؒ تذكرة الموضوعات، ص: ۳۲) یہ

”ولا يصح“ (تذكرة الموضوعات، ص: ۳۲) یہ

روایت صحیح نہیں ہے۔

اور شوکانیؒ علامہ طاہرؒ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ

”لا يصح“ (الفوائد المجموعۃ فی الأحادیث

الموضوعة، ص: ۹)

اور امام الحمد شین علامہ جلال الدین سیوطیؒ لکھتے ہیں کہ

الأحادیث التي رویت في تقبیل الأنامل

وجعلها على العینین عند سماع اسمه ﷺ عن المؤذن

فی کلمة الشهادة كلها موضوعات.

یعنی موذن سے کلمہ شہادت میں آپ ﷺ کا نام
مبارک سن کر انگلیاں چومنے اور آنکھوں پر رکھنے کے متعلق جو
حدیثیں نقل کی جاتی ہیں، وہ سب موضوع یعنی غلط اور بناوٹی
ہیں۔ (تيسیر المقال وغيره)

موضوع حدیث پر عمل کرنا جائز ہے۔ اور ضعیف حدیث پر پچند شرائط عمل
کرنے کی تجویز ہے۔

امام سخاویؒ، بحوالہ حافظ حدیث علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ
”ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے ایک شرط یہ
ہے کہ زیادہ ضعف نہ ہو اور اس پر عمل کرنے والوں کا اعتقاد نہ ہو
کہ آپ ﷺ سے یہ ثابت ہے۔“ (القول البدیع، ص: ۱۹۵)

اور شیخ الاسلام ابن دیقق العید فرماتے ہیں کہ
”اگر حدیث ضعیف ہو، موضوع نہ ہو تو عمل جائز ہے،
لیکن اگر اس سے دین میں کوئی شماری یعنی امتیازی علامت قائم
ہوتی ہو (جیسے کرنے والے کو ”سنی خفی“، اور نہ کرنے والے کو
”وہابی“ کہا جانے لگے) تو اس پر عمل کرنا منوع ہو جائے
گا۔“ (إحکام الأحكام، بر: ۱، ص: ۵)

اور علامہ شاطبیؒ فرماتے ہیں کہ
”بعض اعمال فی نفسہ تو جائز بلکہ مستحب ہوتے ہیں،“

مگر حیثیت بدل جانے سے یا بدل جانے کے خوف سے لائق

ترک بن جاتے ہیں۔ (الاعتصام، ج: ۱، ص: ۹۲)

اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تحریف دین کے اسباب بیان کرتے ہوئے رقم

طراز ہیں کہ

”وَأَن يلتزم السنن والأداب كالالتزام

الواجبات“، یعنی دین میں ایک تحریف یہ بھی ہے کہ سنن اور

مسئلات کو واجب کی طرح لازم و ضروری قرار دے لیں۔ (جیۃ

الله البالغة، ج: ۱، ص: ۲۶۱، وَمِن اسْبَابِ أَخْرِيفِ التَّشْدِيدِ، بَابُ

اَحْكَامِ الدِّينِ مِنْ اَخْرِيفِ)

تحریر بالا سے انگوٹھے چونے کی شرعی حقیقت اور حیثیت اچھی طرح واضح ہو

جائی ہے، آپ کے بھیجے ہوئے فتویٰ کی نقل میں بعض حالہ جات غلط ہیں، اور بعض

کتابیں مثلاً: فتاویٰ صوفیہ، جامع الرموز، کنز العیاد، خزانۃ الروایات اور شرح مختصر

وغیرہ غیر معتبر ہیں، علامہ برکتی علامہ عصام الدین، علامہ جلال الدین مرشدی، علامہ

ملا علی قاری اور علامہ ابن عابدین شافعی نے ان کتابوں کے حوالے سے فتویٰ لکھنے کی

مانعت فرمائی ہے، جب تک معتبر کتابوں سے کسی مسئلہ کی تائید نہ ہوتی ہو۔ (دیکھئے:

مقدمة مفید لمفتی، ص: ۹۵، ۹۳)

اب آخر میں فرقہ رضا خانی کے بانی مبانی اور بریلوی پارٹی کے حضور پر نور،

امام الہست، مجددین ملت، شیخ الاسلام والسلمین، اعلیٰ حضرت مولانا الحاج القاری

الشاد احمد رضا خاں بریلوی کی تحقیق اور آپ کا واضح فیصلہ پیش کرتا ہوں، غور سے ملاحظہ فرمائیے۔

مولانا احمد رضا خاں سے پوچھا گیا کہ مسئلہ: اکثر ویژت مخلوق خدا کا طریقہ ہے کہ اذان اور فاتحہ خوانی یعنی پنچاہیت پڑھنے کے وقت (نحو اجتماعی) انگوٹھے چومتی ہے اور علماء بھی درست بتلاتے ہیں اور حدیث شریف سے ثابت کر کے دکھلاتے ہیں، تو یہ قول درست ہے یا نہیں؟

مولانا احمد رضا خاں بریلوی کے جواب کا اصلی اور ضروری حصہ انہیں کے الفاظ میں یہ ہے، ملاحظہ فرمائیے:

(جواب) اذان میں وقت استماع نام پاک، صاحبِ لواک ﷺ انگوٹھوں کے ناخن چومنا، آنکھوں پر رکھنا، کسی حدیث صحیح مرفوع سے ثابت نہیں، یہ جو کچھ اس میں روایت کیا جاتا ہے، کلام سے خالی نہیں، پس جو اسکے لیے ثبوت مانے یا اسے مسنون یا موکد جانے یا نفس ترک کو باعثِ زجر و ملامت کہے دے شک علی پر ہے، ہاں بعض احادیث ضعیفہ محرومہ میں تقبیل وارد ہے..... اور بعض کتب فقهہ میں مثلاً: جامع الرموز، شرح نقایہ، فتاویٰ صوفیہ، کنز العباد و شامی حاشیہ در مختار کہ اکثر ان میں مستندات علمائے طائفہ اسماعیلیہ سے ہیں، وضع ابہامیں کو مستحب بھی لکھ دیا۔ (ابر المقال فی استحسان قبلۃ الاجلال، ص: ۱۱، ۱۲)

مذکورہ بالا کتب کنز العباد، جامع الرموز، فتاویٰ صوفیہ، شامی وغیرہ میں جو انگوٹھے چومنے کو مستحب لکھا ہے، اس کو بھی مولانا احمد خاں صاحب نے پسند نہیں کیا،

آگے تحریر کرتے ہیں کہ ”پس حق اس میں اس قدر ہے، کہ جو کوئی بامیدزیا تو روشنائی بصر مثلاً: از قبیلہ اعمال مشائخ جان کریا، بتوّق فضل ان کتب پر لحاظ اور ترغیب وارد پر نظر کر کر بے اعتقاد سنت فعل و صحت احادیث و شناخت ترک اسے عمل میں لائے، اس پر بنظر اپنے نفس فعل و اعتقاد کے خیر کچھ مواد خذہ بھی نہیں، کہ فعل پر حدیث صحیح نہ ہونا اس فعل سے نہیں و منع کو تلزم نہیں..... اور پنچایت (فاتحہ خوانی) کے وقت اس فعل کا ذکر کسی کتاب میں نہیں دیکھا گیا اور فقیر کے نزدیک بر بنائے مذہب ارجح واضح غالباً ترک زیادہ انسب والیق ہونا چاہیے۔ (ابر المقال فی اتسحان قبلة الاجلال، ص: ۱۲، ۱۳۳۸ھ، حسنی پر میں بریلی میں طبع ہوئی ہے)

مذکورہ فتوے کا حاصل یہ کہ مولوی احمد رضا خاں صاحب کے نزدیک مجلس فاتحہ خوانی جیسے موقع پر اگوٹھے چونے کا ثبوت کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، اس لیے ان کا نظریہ یہ ہے کہ نہ چومنا ہی زیادہ مناسب ہے۔

اور یہ بات کہ اذان کے وقت اگوٹھا ثابت ہے، اس کے متعلق بھی وہ فرماتے ہیں کہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اس شخص کو غلطی پر مانتے ہیں، جو اس کا قائل ہو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے یا جو شخص نہ چومنے کو بُرا سمجھے، صرف آنکھ کی روشنی کے علاج کے لیے مانتے ہیں، سنت نہیں سمجھتے، اور ان احادیث کو ضعیف اور محروم مانتے ہیں، جن میں اذان کے وقت چونے کی کوئی فضیلت آئی ہے، اور چونے کی اجازت اس شرط پر دیتے ہیں کہ (۱) سنت کا اعتقاد نہ ہو (۲) اس کے بارے میں جو حدیث ہے اس کو صحیح نہ سمجھے (۳) نہ چومنے والے کو بُرانہ جانے وغیرہ، یہ ہے مولا نا احمد رضا خاں صاحب کے نزدیک مسئلہ کی حقیقت! جس کوئی وہابی بلکہ کفر

واسلام کی علامت و نشانی بتایا گیا ہے۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون

بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا

جو چیر اتوک قطرہ خون نہ لکلا

فقط واللہ اعلم بالصواب۔ (فتاویٰ رحیمیہ، کتاب السنۃ والبدعة، آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کر انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ ۱۵۹/۲: ۱۶۲، دارالاشاعت)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سننے وقت انگوٹھا چومنا

(سوال) جب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے، اس وقت ہم دل سے درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن انگوٹھا نہیں چوتے۔ اس لیے بہت سے برادراند اسلام وہابی کہتے ہیں۔ اور ایک دوست نے ”ہدیۃ الحرمین“ نامی گجراتی کتاب پڑھ دیا ہے، اس میں ہے کہ جب اس مبارک کا ذکر آوے تو انگوٹھا چومنا طالبیے۔ اس کتاب کے حوالے یہ ہیں:

(۱) مسند الفردوس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ اذان میں ”اکھدہ ان محمد رسول اللہ“ سنا تو ہم نے شہادت کی دونوں انگلیوں کے پورے چوئے اور آنکھوں سے لگائے۔

(۲) کتاب ”معارج النبوة“ اور ”فتاویٰ جواہر“ میں بھی حضرت آدم علیہ السلام نے بوسہ دیا وغیرہ لکھا ہے۔

(۳) حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو آدمی اذان میں

حضور ﷺ کا نام مبارک سن کر دونوں ابہام کو یوسدے کرائیں گوں پر رکھے گا، تو وہ اندر ہانہ ہو گا اور اس کی آنکھیں کبھی در دنہ کریں گی۔ (نور العینین)

علاوہ ازیں دیگر حوالہ جات کتب لکھتے تھے، مگر آپ واقف ہوں گے۔ لہذا ہوانے نہیں لکھتے ہیں، خلا صفر مائیں۔

(سوال) آپ ٹھیک کرتے ہو، سنت طریقہ یہی ہے۔ آنحضرت ﷺ کا اسم مبارک سن کر یا لے کر درود شریف پڑھنے کی فضیلت اور تاکید احادیث صحیح میں آئی ہے، محفوظہ میں ہے۔ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں: "البخیل الذي ذكرت عنده، فلم يصل علیٰ"؛ حقیقت میں بخیل وہ ہے، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور فرمایا: "رغم أنف رجل ذكرت عنده، فلم يصل علىٰ"۔ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔

(باب الصلاة على النبي ﷺ و فعلها، ص: ۸۶، ۸۷)

نوٹ: ایک ہی مجلس میں کئی مرتبہ حضور اکرم ﷺ کا اسم گراہی لیا یا سنا جائے، تو اس کے بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، پھر بعدہ مستحب ہے (شامی، مطلب فی وجوب الصلاۃ ویلیه کلمہ ذکر علیہ الصلاۃ والسلام، ج: ۱، ص: ۵۱۶)۔ مگر تعمیل ابہام کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ بدعتیوں کی ایجاد ہے، اس سے پچنا ضروری ہے۔

آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے: "مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لِّيْسَ عَلَيْهِ أَمْرًا فَهُوَ بِهِ"۔ جو کوئی ایسا کام کرے جس کے

متعلق ہمارا کوئی فرمان نہیں ہے، تو وہ کام مردود ہے۔ (مسلم
شریف، ج: ۲، ص: ۷۷، باب *نَفْصُ الْأَحَادِيمِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ الْمُهَاجَاتِ
الْأُمُورِ*)

فعن نافع أَن رجلاً عطسَ إِلَى جنبِ ابْنِ
عُمَرَ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ
ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ، وَلَيْسَ هَكُذا عَلِمْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلِمْنَا أَنْ نَقُولَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. (ترمذی شریف، ج: ۲،
ص: ۹۸، باب ما يقال العاطس إذا عطس)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے
چھینک کر الحمد للہ کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ کی
زیادتی کی تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس زیادتی کو ناپسند کرتے
ہوئے فرمایا۔ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو ایسی تعلیم نہیں دی، ہم کو تو
چھینک کر صرف الحمد للہ علی کل حال کہنا سکھلا یا گیا
ہے۔ (ج: ۲، ص: ۹۸)

صرف اذان کے وقت جب موزن اشہد ان محمدًا رسول اللہ بار
دیگر کہے تو دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ناخن کو آنکھ پر رکھنے کے متعلق بعض عالموں
نے لکھا ہے، مگر اول تو ایسی روایتوں کے حوالہ سے لکھا ہے جو ضعیف ہیں، جن سے
استدلال درست نہیں۔ اس کے علاوہ بطور عبادت نہیں، بلکہ اس کو آنکھ کے مرض کا

علاج بتایا ہے۔ آنحضرت ﷺ کی خاص تقطیم کے طور پر نہیں !! (مقاصد حسنة)
 اب لوگ حضور ﷺ کی خاص تقطیم اور دین اور سنت مقصودہ سمجھ کرتے
 ہیں، اور نہ کرنے والے کو وابی سے طعن کیا کرتے ہیں، لہذا یہ بھی مکروہ و منع ہے،
 اعظام میں ہے: ثم افتحمت الصحابة ترك
 سنة حذرا من أن يضع معروفاً إلا أنه يتبدل الاعتقاد
 فيه مع طول العهد بالذكرى.

خلاصہ یہ ہے کہ بعض عمل فی نفسہ جائز بلکہ مستحب
 ہوتے ہیں، مگر اس کی حیثیت بدل جانے یا بدل جانے کے
 اندر یہ کی وجہ سے وہ قابل ترک ہوتا ہے، (ج: ۲، ص: ۹۲)
 دیکھئے! امور خیر کو جانب یہیں سے شروع کرنا مستحب ہے۔ مگر حضرت
 عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اس کا کافی اہتمام دیکھ کر واجب
 سمجھ لینے کے ذریعے مکروہ ہونے کا حکم لگایا۔

قال ابن المنیر: فيه أن المندوبات قد تنقلب
 مكروهات إذا رفعت عن رتبتها لأن التيامن مستحب
 في كل شيء، أي: من أمور العبادة لكن لما خشي ابن
 مسعود رضي الله عنه، أي: يعتقدوا وجوبه أشار إلى
 كراهة. والله أعلم. (فتح الباري شرح البخاري، ج: ۲،
 ص: ۲۸۱)

وكل مباح أدى إلى هذا فهو مكروه حتى

أفتى بعض الفقهاء حين شاع صوم أيام البيض في زمانه
بكراهته لثلا يؤدي إلى اعتقاد الواجب مع أن صوم أيام
البيض مستحب.

اور جو امر مباح اس حد تک پہنچ جائے کہ لوگ اس کو ضروری اور واجب کے درجہ میں سمجھنے لگیں اور نہ کرنے والوں پر طعن کرنے لگیں، وہ مکروہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض فقهاء نے جب ان کے زمانے میں ایام بیض کے روزوں کا زیادہ اہتمام ہونے لگا، تو اس کے مکروہ ہونے کا فتویٰ دیا، تاکہ واجب اعتقاد کر لینے تک نوبت نہ پہنچ جائے، باوجود یہ کہ ایام بیض کے روزے متحب ہیں۔ (مجلس الابرار، مجلس: ۵۰، ص: ۲۹۹)

فقہ کا متفقہ اور مسلمہ قانون ہے کہ متحب کو اس کے درجہ سے بڑھا دیا جائے،
تو وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ واستنبط منه أن المندوبات ينقلب مكروهاً إذا خيف
أن يرعن رتبته. (مجمع البخار، ج: ۲، ص: ۲۴۴)

اگر کسی کی نیت و اعتقاد غلط نہ ہو پھر بھی دوسروں کے عقیدہ کے فساد کے خوف سے اور اہل بدعت کی مشاہدہ کی وجہ سے منع کیا جائے گا، کیوں کہ یہ تو بدعیوں کا ایک شعار بن گیا ہے۔ حضرت امام غزالیؒ فرماتے ہیں: مهما صارت السنۃ شعاراً لأهل البدعة، قلنا یترکها خوفاً عن التشبه بهم۔ جب کوئی سنت بدعیوں کا اتیازی شعار بن جائے تو ہم ان کے مشاہدہ بن جانے کے خوف سے اس کے ترک کرنے کا حکم دیں گے۔ (احیاء العلوم، ج: ۲، ص: ۲۷۰)

آپ نے جو احادیث لکھی ہیں، ان کے متعلق میں کچھ ذکر کروں بجائے

اس کے، مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کی تحقیق اور خلاصہ پیش کر دینا بہتر ہے، وہ آپ اور آپ کے دوست احباب کے لیے زیادہ اطمینان بخش ہو گا۔

مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کا فتویٰ

مسئلہ: (سوال) اکثر ویشنر مخلوق خدا کا طریقہ ہے کہ اذان اور فاتحہ خوانی یعنی پنچایت پڑھنے کے وقت (ختم اجتماعی) اگوٹھے چومتی ہے اور علماء بھی درست بتلاتے ہیں اور حدیث شریف سے ثابت کر کے دکھلاتے ہیں، تو یہ قول درست ہے یا نہیں؟

(الجواب) اذان میں وقت استماع نام پاک، صاحبِ لواک ﷺ اگوٹھوں کے ناخن چومنا آنکھوں پر رکھنا، کسی حدیث صحیح مرفوع سے ثابت نہیں، یہ جو کچھ اس میں روایت کیا جاتا ہے، کلام سے خالی نہیں، پس جو اس کے لیے ثبوت مانے یا اسے مسنون یا موكد جانے یا نفس ترک کو باعثِ زجر و ملامت کہے وہ بے شک غلطی پر ہے، ہاں بعض احادیث ضعیفہ مجروحہ میں تقبیل وارد ہے

آخر جه الدیلمی فی مسند الفردوس وأورده

الإمام السخاوي فی المقاصد الحسنة والعلامة خیر

الدين الرملی فی حواشی البحر الرائق، وذکرہ العلامة

الجراحی فأطال ثم قال: "ولم يصح في المرفوع من

كل هذا شيء"، كما أثره المحقق الشامي في رد

المختار.

اور بعض کتب فقہ میں مثلًا: جامع الرموز، شرح نقایہ، وفتاویٰ صوفیہ، وکنز العباد و شامی حاشیہ درجتار کہ اکثر ان میں مستندات علمائے طائفہ اسماعیلیہ سے ہیں، وضع ابہامین کو مستحب بھی لکھ دیا۔
فضل قہستانی شرح مختصر و نقایہ میں لکھتے ہیں:

وأعلم أنه يستحب أن يقال عند سماع الأولى من الشهادة الثانية "صلى الله عليك يا رسول الله" وعند سماع الثانية منها "قرة عيني بك يا رسول الله" ثم قال: "اللهم متعني بالسمع والبصر" بعد وضع ظفر الإبهامين على العينين، فإنه عليه يكون قائداً له إلى الجنة، كما في كنز العباد. انتهى.

روایت رحایشہ درجتار میں اسے نقل کر کے فرماتے ہیں: ”ونحوه في الفتاوی الصوفیۃ“ پس حق اس میں اس قدر ہے، کہ جو کوئی بامید زیادتی روشنائی بصر مثلًا: از قبلیہ اعمال مشائخ جان کر یا بتوع فضل ان کتب پر لحاظ اور تغییر وارد پر نظر رکھ کر بے اعتقاد سدیت فعل و صحیح احادیث و شناخت ترک اسے عمل میں لائے، اس پر نظر اپنے نفس فعل و اعتقاد کے خیر کچھ مواخذہ بھی نہیں، کہ فعل پر حدیث صحیح نہ ہونا اس فعل سے نہیں و منع کو تلزم نہیں اور بیچایت (فاتح خوانی) کے وقت اس فعل کا ذکر کسی کتاب میں نہیں دیکھا گیا اور فقیر کے نزدیک بر بنائے مذہب ارجح واصح غالباً ترک زیادہ انسب والیق ہونا چاہیے۔ (ابر القال فی اتسحان قبلة الاجلال، ص: ۱۲)

(۱۳۲۸ء، جنی پرلس بریلی میں طبع ہوئی ہے)

(مکمل حوالہ: فتاویٰ رضویہ، کتاب الحظر والاباحة، ابر القال فی احسان قبلة الاجلال: ۲۲۲، رضا قاؤڈیشن)

ذکورہ فتویٰ کا خلاصہ:

مولوی احمد رضا خاں کے نزدیک اذان کے علاوہ فاتحہ خوانی وغیرہ موقعاً تقبیل ابہامین کا کسی کتاب سے ثبوت نہیں ہے، البذا وہ مانتے ہیں کہ نہ چونا ہی زیادہ مناسب ہے۔ اذان کے وقت بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں مانتے اور چونے کو مسنون اور حدیث کو صحیح کہنے والے کو اور سمجھنے والے کو نیز نہ چونے والے کو برمانے والے کو غلطی پر سمجھتے اور مانتے ہیں۔ اذان کے وقت چونے کی احادیث کو ضعیف اور مجروح مانتے ہیں اور شرائط ذیل سے چونے کی اجازت دیتے ہیں:

(۱) مسنون کا عقیدہ نہ رکھے (۲) اس کے متعلق جو حدیث وارد ہے، اس کو

صحیح نہ سمجھے (۳) نہ چونے والے کو رانہ جانے وغیرہ،
یہ ہے مسئلہ کی پچی حقیقت! جس کوئی وہابی یا لکھ کفر و اسلام کی علامت بنائی گئی
ہے۔ افسوس صد افسوس۔ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو
اک قطرہ خون کا نہ لکلا۔ فقط اللہ اعلم بالصواب۔

(فتاویٰ رضویہ، کتاب السنۃ والبدعة، آنحضرت ﷺ کا اسم گرامی) سنتے وقت انگوٹھا
چونا: ۸۹/۲۰۸ (دارالاشاعت)

احسن الفتاویٰ

اذان میں انگوٹھے پھوم کر آنکھوں پر لگانا

سوال: اذان میں ”أشهد أن محمداً رسول الله“ پر جو لوگ انگوٹھے چونے ہیں، وہ ثبوت میں ملکہ عبارت پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمایا کہ تصدیق یا تردید فرمائی جائے، عبارت یہ ہے حضرت علامہ نبہانی نے ”حجۃ اللہ علی العالمین“ میں یہ روایت درج فرمائی ہے، ہنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، جس نے دوسو سال تک خدا کی نافرمانی کی، مرنے کے بعد لوگوں نے اس کو گندی جگہ پر پھینک دیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسے انھا کر باعزت دفاترے کا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ لوگ اس کے نافرمان ہونے کی شہادت دیتے ہیں، ارشاد ہوا ٹھیک ہے کہ وہ گنہگار تھا، مگر وہ جب رات کو آنکھ کھولتا تھا اور میرے محبوب کا نام دیکھتا تو وہ اس کا نام چوتھا اور اپنی آنکھوں پر لگاتا تھا، اس لیے وہ مجھے پیار الگتا ہے، میں نے اس کے دوسو سال کے گناہ بخش دیئے۔ بنی اتو جروا

الجواب باسم ملهم الصواب

في الشامية: ”يستحب أن يقال عند سماع الأولى من الشهادة: ”صلى الله عليك يا رسول الله“،
وعند الثانية منها: ”قرأْتُ عَيْنِي بِكَ يا رسول الله“، ثم
يقول: ”اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِالسمْعِ والبَصَرِ“ بعد وضع ظُفَرَى

الإبهامين على العينين، فإنه عليه السلام يكون قادرًا
إلى الجنة، كذا في "كتنز العباد" اه قهستانی، ونحوه
في "الفتاوى الصوفية". (إلى أن قال) وذكر ذلك
الجرأحي وأطال، ثم قال: "ولم يصيغ في المعرفة من
كل هذا شيء". (حاشية ابن عابدين، كتاب الصلاة،
باب الأذان: ٦٢٨/٢، دار الثقافة والترااث، دمشق)

علامہ شاہی رحمۃ اللہ نے قہستانی وغیرہ کے حوالے سے اس تقبیل کا استحباب نقل
کرنے کے بعد جرایح سے نقل کیا ہے کہ کسی حدیث سے اس کا شہوت نہیں، لہذا اس کی
سمیت پر کوئی دلیل نہیں۔ اور چون کہ عوام اس کو سنت سے بھی بڑھ کر ضروری سمجھ کر
تارک تقبیل کو ملامت کرتے ہیں، لہذا اس کا ترک ضروری ہو گیا۔ عبارت مسلکہ سے
متعلق جس کتاب کا حوالہ پیش کیا گیا ہے، وہ غیر معروف ہے۔ اگر صحیح بھی ہو تو زیادہ
سے زیادہ یہ ثابت ہو گا کہ حضور ﷺ کا نام کہیں لکھا ہوا ہو، تو اسے چومنا اور آنکھوں پر
لگانا باعث برکت و ثواب ہے، اور اس سے کسی کو انکار نہیں، یہ کیسے ثابت ہوا کہ ناخنوں
کو چوم کر آنکھوں پر لگایا جائے، خصوصاً اذان کے وقت۔ فقط اللہ تعالیٰ اعلم
(حسن الفتاوی، باب رد المبدعات، اذان میں انکوٹھے چوم کر آنکھوں پر
لگانا، ۱/۳۷۸، ایج، ایم سعید)

آپ کے مسائل اور ان کا حل

اقامت کے دوران میٹھے رہنا اور انگوٹھے چونا

سوال: بریلوی مسلک کی مساجد میں "أشهد أَنْ
محمدًا رسول اللَّهِ" پر دونوں شہادت کی الگبیوں کو چوسم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں،
کیا یہ دونوں کام صحیح ہیں؟

جواب: آنحضرت ﷺ کے نام ناہی پر انگوٹھے چونا
اور اس کو دین کی بات سمجھنا بدعت ہے۔
(آپ کے مسائل اور ان کا حل، جماعت کی صفت بندی، اقامت کے دوران میٹھے
رہنا اور انگوٹھے چونا: ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ملتیہ لہذا یا توی، کراچی، جدید ایڈیشن)

خیر القیماوی

انگوٹھے چونے کی اردا ویت صحیح نہیں

ا: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اذان میں کلمہ
شہادت ان کر انگوٹھے چونا اور آنکھوں پر لگانا جائز ہے یا نہیں؟

ب: اگر حدیث میں یہ مذکور نہ ہے تو اگر حدیث مذکور ہے تو اس کا حکم مذکور ہے

درست فرمایا ہے؟

۳: کیا ائمہ اربجہ میں سے کسی امام نے اس عمل کو جائز فرمایا ہے، اور اس کے متحب ہونے کا قول کیا ہے؟

۴: بعض علماء اس کو متحب قرار دیتے ہیں، کیا حضور علیہ السلام کے کسی قول یافعی کے ثابت نہ ہونے کی صورت میں کسی عمل کو متحب کہا جاسکتا ہے؟ کیا یہ بدعت ہے؟

۵: بعض علماء فقہ خنی کی مستند کتاب روا الحمار، شافعی کے متعلق فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس عمل کو متحب فرمایا ہے، اسی طرح صاحب مقاصد حسنة اور صاحب مندار الفردوس کے متعلق کہتے ہیں، کیا یہ نسبت صحیح ہے یا غلط؟

الجواب۔ ۱: قرآن کریم، احادیث صحیحہ، اجماع امت، اور ائمہ اربجہ میں سے کسی امام سے اس فعل کا ثبوت نہیں۔ اور لوگ اس کو ضروری اور عملاً واجب سمجھتے ہیں، اس کے تارک پر کمیر کی جاتی ہے، لہذا موجودہ زمانہ میں جائز قرار دینا تو احمد شرعیہ کے خلاف ہے، کسی اجماعی امر متحب کو بھی درجہ واجب میں پہنچاد یا جائے تو اس کو ترک کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ عوام الناس کا اعتقاد محفوظ رہے۔

حدیث عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ: ”لا يجعل أحدكم نصيباً للشيطان من صلاته أَن لا ينصرف إِلَّا عنْ يَمِينِه“ کے تحت علماء نے لکھا ہے: ”وفي هذا الحديث دليل على من اعتقد“

الوجوب في أمر ليس بواجب شرعاً أو عمل معاملة

الواجب معه يكون هذا حظاً من الشيطان وبدعة

مندومة". (بذر المجهود، ج: ۲، ص: ۱۵۶)

۲: صحابہ کی کسی حدیث میں ان کے علاوہ بھی کسی صحیح مرفوع حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے: "وذكر ذلك الجراحی وأطال ثم قال ولم يصح في المرفوع من كل هذا شيء" (شامی، ج: ۱، ص: ۲۶۷)۔

۳: کسی امام نے اس کے مستحب ہونے کا قول نہیں کیا۔

۴: ثبوت احتجاب کے لیے دلیل شرعی ضروری ہے۔ کیوں کہ یہ بھی ایک حکم شرعی ہے، بغیر دلیل شرعی کے ثابت نہیں ہوگا۔ علامہ شامی نقیل فرماتے ہیں: "والمستحب وهو ما ورد به دليل ندب يخصه كما في التحرير: ج: ۱، ص: ۹۶"۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کسی عالم غیر مجتهد نے غیر دلیل کو دلیل سمجھتے ہوئے کسی فعل کو مستحب کہا ہو۔ جب تحقیق سے اس دلیل کا غیر معتبر ہونا ثابت ہو جائے گا تو فعل بذکر مستحب ہونا بھی منطقی ہو جائے گا۔

بعض علماء کا اسے مستحب کہنا ہو سکتا ہے کہ احتجاب لغوی کی قبیل سے ہو، نہ کہ احتجاب شرعی کے قبیل سے ہو، کیوں کہ دلیل شرعی مقتضی احتجاب موجود نہیں۔ جیسا کہ آگے ذکور ہوتا ہے۔

۵: علامہ شامی نے جس جگہ یہ نقیل کیا ہے، اس مقام پر یہ بھی نقیل کیا ہے، "لهم يصح في المرفوع من كل هذا شيء" (ج: ۱، ص: ۲۶۷)، (کہ اس میں کوئی مرفوع صحیح نہیں)۔ یہ خیال نہ کیا جائے کہ اگرچہ اس میں صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن

استدلال کے لیے حدیث حسن بھی کافی ہے، جواب یہ ہے کہ حدیث موجود بھی تو ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی حسن بلکہ ضعیف قابل عمل حدیث بھی موجود نہیں۔ واضح رہے کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنا تمثیل شرطوں سے جائز ہوتا ہے۔ ورنہ نہیں۔

ابضعیف شدید نہ ہو۔

۲: عمل کسی اصل عام کے تحت داخل ہو۔

۳: اس عمل کے منت ہونے کا اعتقاد نہ کیا جائے۔

قال فی الدر المختار: "شرط العمل
بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه وأن يدخل تحت
أصل عام، وأن لا يعتقد سنن ذلك الحديث، وأما
الموضوع فلا يجوز العمل به بحال". (ج: ۱،
ص: ۱۱۹)

اور مسئلہ زیر بحث میں یہ تینوں شرطیں تقریباً مفقود ہیں، کیوں کہ ایسی روایات میں شدید ضعف ہے بلکہ موضوع ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ

"الأحاديث التي رویت في تقبیل الأنامل
وجعلها على العینین عند سماع اسمه عَلَيْهِ السَّلَامُ عن المؤذن
في كلمة الشهادة، كلها موضوعات". انتهى. (تيسیر
المقال للسيوطی)

اور عوام سنت بلکہ اس سے بڑھ کر سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں، الفرض یہ عمل قرآن کریم، حدیث پاک، تعامل مصحابہ، اجماع امت، اقوال ائمہ میں سے کسی دلیل کے ساتھ ثابت نہیں، فقط اللہ اعلم

بندہ عبد التاریخ عفان الدین عنہ، نائب مفتی خیر المدارس، ملتان

الجواب صحیح: بندہ محمد عبد اللہ عفان الدین عنہ، ۲۱ ربیع الاول، ۱۳۹۲ھ

(خیر الفتاویٰ، ما یتعلق بالسنة والبدعة، انگوٹھے چونے کی روایت صحیح نہیں:

۵۸۲/۵۸۲، مکتبہ احمد راہی، ملتان)

فتاویٰ حقانیہ

اذان میں انگوٹھے چونے کا مسئلہ

سوال: اذان کے دوران جب موذن "أشهد أن محمدا رسول

الله" پڑھتے تو سنن والوں کے لیے اُس وقت انگوٹھے چاہنا کیسا ہے؟

جواب: صرف اذان کے وقت جب اذان ہو رہی ہو تو "أشهد أن

محمد رسول الله" کے سنبھل پر شفاعة عینہن کے حصول کے لیے بغیر نیتِ ثواب اور سنت، واجب سمجھنے کے انگوٹھے چونا جائز ہے، اگرچہ بعض نے مستحب لکھا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ عمل صرف اذان کے ساتھ خاص ہے، دیگر مقامات میں نہیں۔

قال العلامہ ابن عابدین: (تحت قوله: لو لم

یجبہ حتیٰ فرغ، لم ارہ) ”یعنی عبادت کے بعد سمع الاولی من الشهادة: ”صلی اللہ علیک یا رسول اللہ“، وعند الثانية منها: ”قرئت عینیٰ بِكَ یا رسول اللہ“، ثم يقول: ”اللهم متّعنى بالسمع والبصر“ بعد وضع ظفری الابهائین علی العینین، فإنّه علیه السلام یکون قائدالله إلى الجنة. (رد المحتار، جلد: ۱، ص: ۳۹۸، باب الأذان)

(فتاویٰ حنفیہ، کتاب الصلاۃ، باب الأذان، ولا قامة، اذان میں انگوٹھے چونے کا مسئلہ: ۷۲/۳، جامعہ دارالعلوم حنفیہ، اکوڑہ)

فتاویٰ دارالعلوم زکریا

بوقت اذان انگوٹھے چونا

سوال: بوقت اذان انگوٹھے چونا کیسے؟

جواب: اذان کے وقت آنحضرت ﷺ کا نام مبارک سن کر انگوٹھے کے ناخن چونا اور آنکھوں پر رکھنا اور اس فعل کو سمع بھانا اور حدیث نبوی ﷺ سے ثابت تصور کرنا اور نہ چونے والے کو عن طعن اور لامامت کے قابل سمجھنا یہ سب غلط ہے اور دین میں تحریف ہے۔ اتنی بات درست ہے کہ بعض علماء نے اس عمل کو جائز قرار دیا

ہے، مگر یہ بھی آنکھ کی بیماری کے عمل اور علاج کے طور پر عبادت اور سنت مقصودہ اور آنحضرت ﷺ کی تنظیم اور عملت کے لیے ہیں۔

ملاحظہ ہو، علامہ شامی فرماتے ہیں:

وفي كتاب الفردوس: "من قبل ظفرى إبهامه
عند سمع أشهد أن محمداً رسول الله" وذكر ذلك
الجراحى وأطال، ثم قال: ولم يصح في المرفوع من
كل هذا شيئاً. (شامي: ٣٩٨/١، سعيد)

فتاویٰ رحیمیہ میں ہے:

اذان کے وقت اگوٹھے چونے کے متعلق جواہاریث اور روایات آئی ہیں،
وہ مسند الفردوس دیلی کے حوالے سے موضوعاتِ کبیر اور تذكرة الموضوعات اور
الفوائد الجموعیۃ الاصحادیۃ الموضوعۃ وغيرہ میں منقول ہیں۔

علامہ سخاویؒ کے حوالے سے ماعلیٰ قاری رحمۃ اللہ علیہ روایات کے متعلق
نقل فرماتے ہیں کہ

”لا يصح“ (موضوعاتِ کبیر، ص: ٧٥)

یعنی روایات صحیح نہیں ہیں۔

اور علامہ محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ طراز ہیں کہ

”ولا يصح“ (تذكرة الموضوعات، ص: ٣٤)

یہ روایات صحیح نہیں ہے۔

اور امام الحمد شیخ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

الاحادیث التي رویت في تقبیل الانامل
وجعلها على العینین عند سماع اسمه ﷺ عن المؤذن
في كلمة الشهادة كلها موضوعات.

یعنی مؤذن سے کلمہ شہادت میں آپ ﷺ کا نام
مبارک سن کر الگیاں چونے اور آنکھوں پر رکھنے کے متعلق جو
حدیثیں نقل کی جاتی ہیں، وہ سب موضوع یعنی غلط اور بناوٹی
ہیں۔ (تيسیر القال وغیره) موضوع حدیث پر عمل کرنا اجاز
ہے۔ (فتاویٰ رحیمیہ: ۶۰۸)

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند میں ہے:

اذاں میں بوقت شہادتین انکو شاچومانا سنت سمجھ کر صحیح نہیں ہے۔ اور چونکہ
اس زمانہ میں اکثر لوگ سنت سمجھ کرتے ہیں اور تارک کو طلام اور مطعون کرتے ہیں،
اس لیے اب اس کو علماء محققین نے متروک کر دیا۔ (فتاویٰ دارالعلوم دیوبند: ۹۰۲، از
مفہی عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ)

کفایت المفتی میں ہے:

اذاں میں بوقت شہادتین انکو شاچوم کر آنکھوں پر لگانے کا کوئی ثبوت نہیں۔

واللہ اعلم۔ (کفایت المفتی: ۳۴۵)

(فتاویٰ دارالعلوم زکریا، کتاب الصلاۃ، اذاں اور اقامۃ کا بیان، بوقت اذاں

انگوشے چونٹے کے بارے میں تحقیق

بوقتِ اذان صرف علاج کے لیے انگلیوں کو آنکھوں پر رکھنا

سوال: اگر کوئی شخص اذان کے وقت انگلیوں کو آنکھوں پر علاج اور تکلیف دور کرنے کے لیے رکھے اس کو سنت نہ سمجھے تو اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟

جواب: کفایتِ امفتی میں ہے:

تفصیل ابھامیں کا کوئی پختہ ثبوت نہیں، اس لیے اس کو موجب ثواب سمجھ کر کرنا بے شوتوت بات ہے۔ البتہ بعض لوگ اسکو بیماری چشم سے محفوظ رہنے کا عمل سمجھ کر کرتے ہیں، تو اس صورت میں مثل دیگر عملیات و تحویزات کے عمل بھی مباح ہو جا۔ مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تارک پر کوئی طعن یا ملامت نہ کی جائے، جو اس عمل کو کرنے کرے، جو کرنے نہ کرے۔

نیز دوسری جگہ مذکور ہے:

بعض بزرگوں نے اس فعل کو آنکھوں کی بیماری سے محفوظ رہنے کا ایک عمل قرار دیا ہے تو یہ شرعی بات نہ ہوئی، اگر اس کو یہ سمجھ کر کرے کہ اس عمل کو کرنے سے آنکھیں نہیں دکھتیں تو اسے اختیار ہے۔ (کفایتِ امفتی: ۵۷/۳)

فتاویٰ محمودیہ میں ہے:

بعض سلف سے نقل کیا ہے کہ یہ آشوب چشم کا مجرب علاج ہے، اس کو سنت ہدی سمجھ کر بطور عبادت کرنا بے اصل بلکہ بدعت ہے، اس لیے ترک لازم ہے۔ ہاں اگر کوئی آشوب چشم کے علاج کی غرض سے اس طرح کرے، جس سے دوسروں کو

سنت و لواب کا اندیشہ ہو تو درست ہے۔

(فتاویٰ محمودیہ: ۱۶۰/۳، باب المدعات والرسوم، جامحة فاروقیہ)

تفصیل ابہامین سے متعلق روایات کی تفصیل المقاصد الحسنة میں ص: ۲۸۲ پر
ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ واللہ اعلم۔

(فتاویٰ دارالعلوم زکریا، کتاب الصلاۃ، اذان اور اقامۃ کا بیان، بوقتِ اذان صرف
علاج کے لیے الگنیوں کو آنکھوں پر رکھنا: ۲/۱۷، زمزم پبلشرز)

فتاویٰ فریدیہ

حضرت ﷺ کا نام سن کر انگوٹھا چومنا

سوال: حضور ﷺ کا نام سن کر انگوٹھا چوم کر آنکھوں پر لگانا کیسا

ہے؟

جواب: علا جائز ہے۔ اور احسان بادعت ہے۔

(فتاویٰ فریدیہ، کتاب الشیۃ والبدعۃ، حضور ﷺ کا نام سن کر انگوٹھا چومنا: ۱/۱، ۳۲۱،
دارالعلوم صدقیقیہ، حموابی، طبع پنجم: ۱۴۳۳ھ)

اذان کے وقت انگوٹھے چومنا روایات صحیح سے ثابت نہیں

سوال: کیا فرماتے ہیں علام دین شریعہ مدنی اسی کے باوجود متن کو

اکٹلوگ "أشهد أن محمدا رسول الله" کو اذان کے دوران سننے پر اپنے اگوٹے چوتھے ہیں اور آنکھوں پر لگاتے ہیں، یہ کام بعض لوگ سنت سمجھتے ہیں، اور استدلال میں روایات ذکر کرتے ہیں، جن کو مظاہر حق والے نے روایت کیا ہے، حالاں کہ یہ خلاف سنت رسم ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس کو علامہ ابن طاہرؓ نے تذکرہ میں کہا ہے کہ وہ صحیح نہیں (الفوائد الجموعۃ فی الاحادیث الموضوعة، ص: ۵، مؤلف علامہ شوکانی) الغرض یہ کام کرنا کیسا ہے، سنت، خلاف سنت یا بدعت؟ میں تو جروا

جواب: یہ مخصوص تقبیل اگرچہ علاج جائز ہے، لیکن ثواب کی نیت سے کرنا بدعت ہے، اور چونکہ موجودہ دور میں عوام اس کو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، لہذا فتویٰ نہ کرنے کا دیا جائے گا،

لأن حديث الصديق لا يصح رفعه (كما في

المصنوع في أحاديث الموضوع، ص: ۲۵) (الفوائد

المجموعۃ، ص: ۹) وعدم صحة الرفع لا يستلزم

صحة الموقوف بل لا بد من المراجعة إلى الأسناد

وكذا ما نقل عن الخضر عليه السلام ليس بحججة وفي

سنده مجاهيل من الانقطاع (بوادر، ص: ۴۰۹) وما

في كنز العباد وغيره، من كتب الفقه، فبناء على تلك

الروايات دون النقل عن الأئمة. ففهم وتدبر

(فتاویٰ فریدیہ، کتاب الصلاۃ، باب الاذان والاقامۃ، اذان کے وقت انگوٹھے چومنا روایات صحیحہ سے ثابت نہیں: ۱۸۶/۲: ۱۸۷، دارالعلوم صدقیہ، صوابی، طبع چشم: ۱۳۳۰ھ)

نجم الفتاویٰ

وضویں اور حضوٰۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنا

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ
وضویں انگوٹھوں کا چومنا اور حضوٰۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر انگوٹھوں کا چومنا اور اللہ تعالیٰ کے نام پر نہ چومنا جائز ہے یا نہیں؟ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کے نام تابی پر یہ حکم ہے تو اللہ کے نام پر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ وضاحت فرمادیں۔

الجواب حامدًا ومصلیاً وضویں اور حضوٰۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر انگوٹھے چومنے کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ خود ساختہ عمل ہے، جو شریعت میں قابلِ قبول نہیں۔ نیز حضوٰۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنے سے متعلق جواحد ایث بیش کی جاتی ہیں، ان میں کوئی حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔

لما فی المشکوٰة (ص: ۲۷) : عن عائشة

قالت قالت رسول الله ﷺ: "من أحدث في أمرنا هذا

مالیس منه، فہورڈ۔“

وفي المقاصد الحسنة (ص: ٣٨٣): حديث

مسح العينين بباطن أئمتي السبابتين بعد تقبيلهما عند
سماع المؤذن أشهد أن محمد رسول الله مع قوله
أشهد أن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربنا
..... ذكره الدليلي في الفردوس بسند فيه
مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر عليه السلام
قال في آخر البحث: ولا يصح في المعرفة من كل
هذا شيء.

وفي الموضوعات الكبير (ص: ١٠٨): مسح
العينين بباطن أئمتي السبابتين بعد تقبيلهما عند
سماع المؤذن وكل ما يروى في هذا فلا
يصح رفعه البتة.

(بجم القنواتی، کتاب العقائد، فصل فی النسب والبراءة، موضوعین اور حصہ مطہریت کے نام پر
اگوٹھے چونا، اری ۱۵۵، ۱۵۶، شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم یاسین القرآن، کراچی، ط:

(۱۳۲۳ھ)

فتاویٰ عباد الرحمن

اذان کے درمیان انگوٹھے چونے کا حکم

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ اذان کے دوران جب موزن "أشهد أن محمداً رسول الله" پڑھتے تو سننے والوں کے لیے اس وقت انگوٹھے چونا کیسا ہے؟ بعض لوگ "شامی" کا حوالہ دیتے ہیں۔

جواب: علامہ شامیؒ اپنے فتاویٰ شامیہ میں فقہاء کرام کے آقوال نقل کرنے کا بڑا اہتمام فرماتے ہیں، پھر عموماً آخر میں قول راجح کی طرف اشارہ بھی فرمادیتے ہیں، اس مسئلہ میں بھی بعض فقہاء کرام کے کتب سے حوالہ دیتے ہوئے انگوٹھے چونے کا ذکر فرمایا ہے، اس کو بھی بیان فرمایا، چون کہ محدثین حضرات جیسے: علامہ سیوطیؒ نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ موضوع ہے، اس کے متعلق کوئی حدیث نہیں، اس لیے آخر میں علامہ شامیؒ نے اس کی بھی تصریح فرمادی۔

بہر حال احادیث کے علاوہ خیر القرون میں اپنے سلف سے بھی اس کا کوئی واضح ثبوت ہمارے علم میں نہیں ہے، جب کہ پاک و ہند میں جاری اس عمل کو بعض لوگ وجب کا درجہ دیتے ہیں، بلاشبہ یہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ کے متراوف ہے، موزن کی شہادت رسالت کے موقع پر سننے والے کو آپ ﷺ نے کلمات شہادت دہرانے کی تعلیم فرمائی ہے، لہذا جسمی کلمات کو دہرانے پر احتفاء کرنا ہی اصل سنت ہے، اس کے علاوہ آپ ﷺ کا اسم مبارک سننے کے موقع پر درود شریف پڑھنے کے بارے

میں احادیث میں واضح حکم ہے، اس لیے درود شریف میں کوئی ساتھ ساتھ پڑھ تو
بہتر ہے۔

لما فی سنن أبي داود: (١/٨٨، طبع رحمانیہ)

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَهُ يَقُولُ: لَا حُولَّ
لِّيَقُولُ السَّعْدُونَ، إِلَّا فِي الْحَيَّلَتِينَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَا حُولَّ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا فِي قَوْلِهِ: "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنِ النَّوْمِ"،
فَإِنَّهُ يَقُولُ: "صَدَقْتُ وَبِرْتُ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتُ"..... إِلَخ

ولما فی الشَّامِي: (١/٣٩٧-٣٨٩، طبع سعید)

(قوله: إن سمع المسنون منه) الظاهر أن
المراد ما كان مسنوناً جماعة..... فلو كان بعض
كلماته غير عربي أو ملحوظاً لا تجب عليه الإجابة في
باقي لأنه حينئذ ليس أذاناً مسنوناً إلخ "يستحب
أن يقال حينه سياع الأولى من الشهادة: "صَلَّى اللَّهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ بِكَارِسُولَ اللَّهِ"، وعند الفانية منها: "قَرَأْتَ عَيْنِي
بِظَهِيرَتِكَارِسُولَ اللَّهِ"؛ ثم يقول: "اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِالسَّمْعِ
وَالْأَسْمَرَ" بهذه وضيع الطفري الإيمانين أعلم العينين، فإن
وابي العلاء البهائم مكتوب قوله إلى البحة، كينا في تحرير مسائل ابن
العباد" اه قهستانی، ونحوه في "الفتاوى الصوفية".

وفي كتاب الفردوس: "من قتل ظفري
إيهاميه عند سماع "أشهد أنَّ محمداً رسول الله" في
الأذان، أنا قاتله ومدخله في صفواف الجنة". وتمامه
في خواشي البحر للمر ملي عن المقاصد الحسنة
للسخاوي.

وذكر ذلك الجراح وأطال، ثم قال: "ولم
يصح في المعرفة من كل هذا شيء".

ولما في تيسير المقال للسيوطى:
الآحاديث التي رویت في تقبيل الأنامل وجعلها على العينين
عند سماع إسمه عليه السلام عن المؤذن في كلمة الشهادة كلها موضوعات.
بلغ والله أعلم بالصواب
(فتاوی عباد الرحمن، كتاب الصلاة، باب الأذان، اذان کے درمیان اگوئے چونے کا
حکم: ۳۹۶۷، ۳۹۷۴، دارالافتاء و تحقیق کراچی)



(*) مصادر و مراجع (*)

- (*) احسن الفتاویٰ، حضرت مولانا شیداحمد صیانویؒ، ایج، ایم سعید، کراتچی
الأعلام، للعلامة خیر الدین الزركلیؒ، دار العلم للملايين، بیروت، الطبعة
الخامسة عشرة، مايو: ۲۰۰۲م
- (*) التعليق الصبيح، للإمام محمد إدريس الكاندلسویؒ، المتوفى:
١٨٩٩ھ، المکتبة الرشیدیة، کوئٹہ
- (*) السعاية، للعلامة محمد عبد الحی بن محمد عبد الحلیم الانصاری
اللکنويؒ، المتوفى: ۱۳۰۴ھ، سهیل اکڈمی، لاہور
- (*) القول البديع، للحافظ لشمس الدین محمد بن عبد الرحمن
السخاویؒ، المتوفى: ۲۹۰۵ھ، مکتبة دار البیان، المدینة المنورۃ
- (*) الكافش عن حقائق السنن الشهير بشرح الطبیبی، للعلامة حسن
بن محمد الطبیبیؒ، المتوفى: ۷۴۳ھ، إدارة القرآن والعلوم، کراتشی
- (*) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع، الشیخ عبد الفتاح أبو
غدة، ایج ایم سعید، کراتشی
- (*) المقاصد الحسنة، للحافظ لشمس الدین محمد بن عبد الرحمن
السخاویؒ، المتوفى: ۵۹۰۲ھ، دار الكتب العلمية
- (*) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروفة بالموضوعات

الكبرى، للعلامة نور الدين علي بن سلطان القاري، المتوفى: ١٤١٠هـ، قديمي كتب خانة / المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى: ١٣٩١هـ.

(*) النافع الكبير على الجامع الصغير، مقدمة الجامع الصغير، للعلامة محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكتوني، المتوفى: ١٣٠٤هـ، إدارة القرآن كراتشي

(*) النخبة البهية في الأحاديث المكنوبة على خير البرية، للعلامة محمد الأمير الكبير المالكي، المتوفى: ١٢٢٨هـ، المكتب الإسلامي

(*) امداد الأحكام، مولانا ظفر احمد عثاني، المتوفى: ١٣٩٣هـ، مكتبة دار العلوم كراچي

(*) آپ کے مسائل اور ان کا حل، مولانا محمد يوسف لدھیانوی شہید، المتوفى: ١٣٢١هـ، جدید تحریر شدہ ایڈیشن، مکتبہ لدھیانوی، کراچی

(*) بستان المحدثين للدهلوبي، المحدث الكبير الشاه عبد العزيز المحدث الدهلوبي، فارسي، سعيد. و مترجم بالعربية للدكتور محمد أكرم النبوi، دار الغرب الإسلامي

(*) تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، المؤرخ الإسلام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان النهبي، المتوفى: ٧٤٨هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٠هـ

(*) تذكرة الموضوعات، للعلامة الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر ابن أحمد المقدسي، المتوفى: ٩٨٦هـ كتب خانه مجیدیہ، ملتان، الطبعة الأولى: ١٣٢٣هـ

- (*) تفسیر الجلالین، جلال الدین محمد بن احمد بن محمد المحتلي، المتوفى: ١٢٦٤ھ، جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر السیوطی، المتوفى: ٩١١ھ، المکتبة البشری، کراتشی
- (*) تفسیر روح البیان، الشیخ اسماعیل حکیم البروسی رحمة الله، المتوفی: ١٣٧ھ، مطبعہ عثمانیہ
- (*) تنقیح فتاوی الحامدیہ، مکتبۃ محمد امین بن عمر بن عبد العزیز عابدین، المتوفی: ١٢٥٢ھ، دار المعرفة بیروت
- (*) جمع الجوامع، دیباچہ قسم الأقوال من جمع الجوامع (الجامع الكبير)، لیامام جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بکر السیوطی، المتوفی: ٩١١ھ، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى: ١٤٢١ھ
- (*) حاشیة الطحطاوی علی مراقب الفلاح، للعلامة احمد بن اسماعیل الطحطاوی الحنفی، المتوفی: ١٢٣١ھ، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى: ١٤١٨ھ
- (*) خیر الفتاوی، حضرت مولانا خیر محمد صاحب جاندھری، المتوفی: ١٣٩٠ھ، و مفتیان دارالافتاء، جامعہ خیر المدارس، مکتبہ امدادیہ ملتان
- (*) رد المحتار مع الدر المختار محمد امین بن عمر بن عبد العزیز عابدین، المتوفی: ١٢٥٢ھ، دار الثقافة والتراث، دمشق
- (*) فتاوی اعیاد الرحمن، مفتی عبد الرحمن ملائیل صاحب دام فیوضہم، دارالافتاء وتحقیق، مسجد ابو بکر الصدیق، فیض: ٢، ذی الحجہ، اے، کراچی

- (*) فتاویٰ حفاظیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب^ر، مفتیان جامعہ دارالعلوم حفاظیہ، اکوڑہ خٹک، المکتبۃ الحفاظیہ
- (*) فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، مفتی اعظم حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب عثمانی، المتوفی: ۱۳۲۷ھ، دارالاشراعت، کراچی
- (*) فتاویٰ دارالعلوم زکریا، مفتی رضا الحق صاحب دامت برکاتہم، زمزم پبلشرز
- (*) فتاویٰ برجمیہ، مفتی سید عبدالرحمیم صاحب لاچپوری^ر، دارالاشراعت
- (*) فتاویٰ رضویہ، ابر القال فی اختیان قبلۃ الاجلal، مولانا احمد رضا خان البریلوی، رضا قاؤنڈیش
- (*) فتاویٰ فریدیہ، فقیرہ احصر حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب^ر، دارالعلوم صدیقیہ، صوابی، طبع چشم: ۱۳۳۰ھ
- (*) فتاویٰ محمودیہ، فقیرہ الملک حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی^ر، المتوفی: ۱۳۲۱ھ، ادارہ الفاروق، کراچی
- (*) فتاویٰ مفتی محمود، مقرر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود^ر، المتوفی: ۱۳۰۰ھ، جمعیۃ کپوزنگ سٹرٹ، لاہور
- (*) فتح الباری، احمد بن علی المعروف بابن حجر العسقلانی^ر، المتوفی: ۵۸۲ھ، دارالمعرفۃ
- (*) کشف الغمینون عن أساسی الكتب والفنون، للعلامة مصطفیٰ بن عبد الله الشهیر بسحاجی خلیفة، المتوفی: ۱۰۶۷ھ، دار إحياء التراث العربي، بیروت

(*) کفایت الحقیقی، مفتی عظیم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی، المتوفی: ۱۳۷۲ھ، ادارہ الفاروق، کراچی

(*) مجموعۃ الفتاوی، للعلامة محمد عبد الحی بن محمد عبد الحلیم الانصاری اللکنوی، المتوفی: ۱۳۰۴ھ، المکتبۃ الرشیدیۃ، کوئٹہ

(*) مرقاۃ المفاتیح، للعلامة نور الدین علی بن محمد بن سلطان المشهور بالعلا علی القاری، المتوفی: ۱۰۱۴ھ، سعید

(*) معجم المصطلحات الحدیثیۃ، مکتبۃ زمزم للطباعة والنشر والتوزیع، کراتشی

(*) مقالات الكوثری، الشیخ محمد زاہد الكوثری، المتوفی: ۱۳۷۱ھ، دارالسلام، الطبعة الأولى: ۱۴۲۸ھ

(*) منهاج السنۃ النبویة لابن تیمیہ، أبو العباس تقی الدین أحمد بن عبد الحلیم، المتوفی: ۱۴۷۸ھ، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى: ۱۴۶۷ھ

(*) منهج النقد فی علوم الحدیث، الدكتور نور الدین عتر، دارالفکر، بیروت، الطبعة الخامسة والعشرون: ۱۴۲۵ھ

(*) نجم الفتاوی، شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم یاسین القرآن، کراچی، ط: ۱۳۳۱ھ

